


12

نحوں کا حقیقی مرہم

پرلیشنزیوں سے بحث کا حقیقی حل



ابو عبد اللہ

(زخموں کا حقیقی مرہم)

(۱۲)

ہر شانیوں سے نجات کا حقیقی حل

ابو عبدالله

(جملہ حقوقِ حق مولف محفوظ ہیں)

نام کتاب: پریشانیوں سے نجات کا حیقیقی حل

تالیف: ابو عبد اللہ

اشاعت اول: 1445ھ، 2024ء

قرآن و سنت کو من و عن بیان کرنے کی حتی الاماکن کوشش کی گئی ہے لیکن انسان کی کاؤش خطا سے پاک نہیں۔ اسلئے کہیں بھی کوئی بات قرآن و سنت سے عدم مطابقت پر نظر آئے تو ہمیں مطلع کریں، اگر واقتناً ایسا ہی ہوا تو ہم انشاء اللہ فوراً رجوع کریں گے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالحیر فرمائے۔ (آمین)

نوٹ: چونکہ اس مسودہ کی پروف ریڈنگ ابھی پوری طرح نہیں ہو سکی لہذا الفاظ غلطیوں کیلئے پیشگی مذکور ت

فہرست

| | |
|---|----|
| تحریر کا مقصد: | 3 |
| پریشانیوں کی مختلف شکلیں | 3 |
| بچاؤ کا عاموی حل | 4 |
| مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا! | 6 |
| بچاؤ کا خصوصی (حیقیقی) حل | 6 |
| خواہشات پر قابو | 25 |
| شہواتِ حرص و ہوس کے پھندے سے آزادی | 28 |
| ایک دن پر زندگی۔ پریشانی سے نجات کا عظیم حل | 33 |
| خلاصہ (بیماری میں بچت کی راہیں) | 34 |
| اطمینان و سکون کے ذرائع | 40 |
| ☆ ہماری دعوت | 42 |
| ☆ ہماری اہم تحریر | 43 |

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء

والمرسلين و على آله وصحبه اجمعين اما بعد!

تحریر کا مقصد: مصائب و آلام، تنگی و تکالیف اور پریشانیاں اس زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ گاہے بگاہے آئی ہی آئی ہیں۔ اسباب کی اس زندگی میں ان سے کلی چھٹکارہ ممکن نہیں۔ ہاں جس حد تک ممکن ہو ان سے بچنے، انہیں کنٹرول کرنے اور ان پر صبر کرنے کی بھرپور کوشش ضرور کرنی چاہئے۔ یہ تحریر اس بھنوڑ سے نکلنے کی ایک منفرد کاوش ہے، جس میں پریشانیوں سے نجات کا حقیقی حل دیا گیا ہے۔ جوان شاء اللہ چین و راحت اور امن و عافیت کا یقینی ذریعہ ثابت ہو گا۔

پریشانیوں کی مختلف شکلیں

زندگی میں آنے والی پریشانیاں درج ذیل مختلف شکلوں میں آتی ہیں:

(۱)-بیماریاں (Diseases): ہلکی، شدید اور جان لیوا..... ان گنت بیماریاں

(۲)-حوادث (Accidents/Tragedies): گاڑیوں کا ٹکراؤ، زلزلے، کرنٹ، آگ، سیلاہ، طوفان، رشتہ ناطے کثنا، طلاق..... وغیرہ

(۳)-شدید موسمی اثرات (Harsh Weather): شدید گرمی، شدید سردی، جھکڑو غیرہ

(۴)-وسائل میں تنگی (Poverty): مال و اسباب، رزق کی تنگی، بھوک افلas وغیرہ

(۵)-انسانوں سے تکلیف: بُرے لوگوں، حاسدین رشتہ داروں اور دوست احباب کی طرف سے اذیت و پریشانی: ذمے داریوں کے اتزام اور حقوق کی ادائیگی میں غفلت سمیت ظلم و زیادتی

(۶)-خواہشات کو جھٹکا (Unfulfilment of Desires): خواہشات کا احسن طریق پر پورا نہ ہونا بھی انسان کیلئے قابل برادشت نہیں۔ ان میں کمی رہ جانا بھی حرست و تکلیف کا باعث بنتا ہے۔

پہلے ان سے بچاؤ کا عمومی (اسباب کے تحت) حل بتایا جائے گا اسکے بعد خصوصی اور حقیقی حل۔

بچاؤ کا عمومی حل

دنیا کی زندگی کو اللہ نے اسباب یعنی قوانین طبیعہ کے تابع کیا ہے۔ زندگی گزارنے کیلئے انسان کو عقل و شعور سے نوازا گیا ہے تاکہ فائدے و نقصان کی پہچان کر سکے۔ ان قوانین طبیعہ کی پرواہ کرنے یعنی رہنے سہنے، کھانے پینے..... میں صحت و زندگی کا خیال نہ رکھنے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہنے اور کوشش نہ کرنے اور کچھ کئے بغیر ہر کام تقدیر پر ڈالنے سے انسان خود اپنی صحت اور زندگی کیلئے مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ پروردگار نے فرمایا:

﴿وَمَا آَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيَّةٍ فِيمَا كَسَبْتُ أَيْدِيهِكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾

(الشوریٰ: 30:42)

”اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت تو وہ تو کمائی ہوتی ہے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی اور معاف فرمادیتا ہے وہ (پروردگار) بہت سے قصوروں کو۔“

یہاں اپنے ہاتھوں کی کمائی سے خصوصاً مراد تو معصیت و نافرمانی کی راہ پر چلانا ہے، جو کہ بالآخر پکڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن اسکا اطلاق دنیا میں مصائب سے نجح کیلئے کوشش نہ کرنے کے ساتھ بھی ہے۔ اس ضمن میں ہمارے پیارے رسول ﷺ نے بھنوڑ سے نکلنے کیلئے انسانیت کو بہت عظیم رہنمائی فرمائی ہے:

”تو اپنے لئے (۱)۔ نفع بخش چیز کے لئے محنت کر اور (۲)۔ اللہ سے (دعا کے ذریعے) مدد طلب کر اور (۳)۔ عاجزی و سستی نہ کر، اور (اب) اگر تجھے کوئی نقصان پہنچ تو ایسے نہ کہو اگر میں (اس طرح اس طرح) کرتا تو اس طرح اس طرح ہوتا، بلکہ یوں کہو: اللہ نے مقدر کیا اور جو اس نے چاہا سو کیا، کیونکہ لفظ اگر، شیطان کا عمل کھول دیتا ہے۔“ (مسلم، کتاب القدر، رقم: 6774)

معلوم ہوا تقدیر پہلے نمبر پنہیں بلکہ چوتھے نمبر یعنی کوشش، دعا اور چاق و چوبندر ہنے کے بعد برآمد ہونے والے نتائج پر ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ تک نہ ہلا کیا جائے اور ہر چیز کو تقدیر پر ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

دونغلطیاں: اس ضمن میں لوگ عام طور پر دونغلطیاں کرتے ہیں:

پہلی غلطی: کچھ کئے بغیر صرف دعا پر انحصار۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں وہ بغیر اسباب کے بھی سب کچھ عطا کر سکتا ہے، لیکن دنیا میں یہ عمومی طابطہ و طریقہ نہیں۔ یہاں اس نے کامیابی کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے، جیسا کہ اوپر واضح کر دیا گیا۔

دوسرا غلطی: اساب کو حرف آخر سمجھتے ہوئے، اللہ سے بے نیاز ہو جانا، اللہ کو بھول جانا، جو کہ شیطان کی راہ ہے۔ سارے اسباب پورے کر کے بھی نتیجہ خلاف توقع آ سکتا ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی یوں فرمائی:

﴿ وَ لَا تَقُولَنَّ لِشَاءِ إِنِّيْ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَّا ۝ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾

(سورہ کھف: 18-24)

”اور کبھی نہ کوئی کسی چیز کے بارے میں کہ کل میں یہ ضرور کروں گا، مگر یہ کہ اگر چاہے اللہ“ اسکا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ کچھ کئے بغیر انشاء اللہ کہنا ہے جو کہ اس وقت مسلمانوں نے اپنا وظیرہ بنا لیا ہے۔ جو کام نہ کرنا ہوا سپر انشاء اللہ کہہ دیتے ہیں۔

نتیجہ: الہذا تھ پرہاتھر کھکھ بیٹھے رہنے کی بجائے آنکھیں کھول کر زندگی بسر کرنے، وقت کی قدر کرنے، اسباب کے تحت بھر پور محنت و کاوش کرنے، حفاظتی اقدامات (Safety Measure) کو ہر ممکن ملحوظ رکھنے، کھانے پینے میں متوازن غذا اور لائف سٹائل (واک، ورزش) وغیرہ کا خیال رکھنے، وقت کی قدر کرنے، اولاد کی کفالت و تربیت کی بھر پور فکر کرنے، بُرے ماحول سے بچنے..... بیماری کی صورت میں موزوں دوائی (Medicine) لینے اور مسبب الاسباب سے تعلق اور اس سے مدد کی دعا کرتے رہنے سے، ان شاء اللہ پیچھے ذکر کردہ سات میں سے پانچ (یعنی: بیماریاں، حادثات، مسوی شدت، وسائل میں تنگی، شوشل میڈیا) کی شکل میں آنے والی پریشانیوں سے کافی حد تک بچاؤ ممکن ہو جائے گا۔

جہاں تک معاملہ پانچوں (انسانوں سے تکلیف) کا ہے، تو اس سے بچاؤ کی نشاندہی بھی خصوصی حل میں کی جائے گی۔ مزید یہ کہ ساتوں پریشانی (یعنی ”خواہشات“) کا علاج کچھ مختلف ہے، جو انشاء اللہ

آگے الگ سے واضح کر دیا جائے گا۔

مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا!

اسباب کے تحت اس کاوش سے کافی حد تک بچاؤ تو ہو جائے گا، لیکن مسئلہ ابھی پوری طرح سے حل نہیں ہوا۔ کیونکہ مصائب کثروں تو ہو جائیں گے، لیکن ختم تو نہیں ہوں گے۔ ایک مصیبت سے جان چھڑائیں گے، تو دس نئے مصیبتوں آ واقع ہوں گی۔ کوئی بڑا حادثہ، مہلک مرض، کسی قربی کی موت، مال و اسباب میں بڑا نقصان..... سمیت کئی قسم کے مصائب تو کسی وقت بھی پیش آ سکتے ہیں۔ اس قسم کے شدید حجھٹکے انسان کی کمر توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور کئی لوگ تو ایسی خبریں سنتے ہیں جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ تو پھر اسکا حل کیا ہے؟ جی اس کا حل اسباب سے بالائی خصوصی اور حقیقی حل ہے، جو انشاء اللہ دائی عافیت کا باعث بنے گا۔

بچاؤ کا خصوصی (حقیقی) حل

اللہ کی توفیق سے اب ہم مذکورہ مسئلے کا اصل (حقیقی) حل بیان کرتے ہیں جونہ صرف دنیا بلکہ الگی زندگی میں بھی اطمینان و سکون کا باعث بنے گا۔ انسان کی اصل خوش نصیبی اس حل سے آگاہی اور اسے اپنانے میں ہے اور اصل قبل ترس وہ لوگ ہیں جو اس حقیقت سے ناولد ہیں۔ اگر آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں چیلن و راحت اور امن و عافیت چاہئے، تو پھر اس حقیقی حل سے جلد از جلد آگاہ ہو کر دوسروں کی آگاہی کا ذریعہ بنیں۔ اس حل کے کئی نکات بیان کئے جائیں گے، جن میں سے ہر ہر نکتہ را ہی کا موجب بنے گا۔ یہ حل دو طرح سے دکھوں کا مداوا بنتا ہے:

(۱)۔ خالق کی تائید و مدد: مسبب الاصباب یعنی خالق کے حصار میں آنے سے۔

(۲)۔ سوچ کی تبدیلی سے: اپنی ذات، دنیا اور آخرت کی حقیقت سے آگاہی سے سوچ میں تبدیلی کی بنابر پھنور سے نجات۔ سوچنے کا انداز بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک ہی مسئلے کو مختلف انداز سے دیکھنے سے زندگی پر اسکے مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ زندگی اور اس میں آنے والے مسائل کو جب اصل حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے گا (جسے اگلے صفحات میں کھولا گیا ہے) تو پھر ان شاء اللہ

بہت حد تک عافیت نصیب ہو جائے گی۔

نحوٗ : یہ حل چونکہ اسباب سے مادر ہے اور اس کا تعلق مسبب الاسباب یعنی خالق کے ساتھ ہے اسلئے اس حل سے حقیقی معنوں میں مستفید ہونے کیلئے خالق کے سے ساتھ تعلق کا ہونا لازم ہے۔ یہ تعلق جتنا مضبوط ہو گا اسی قدر ثمرات نصیب ہوں گے۔ مزید یہ کہ حل بہت آسان بھی نہیں کہ بلا کاوش ہی مقصود کو پایا جاسکے۔ اسے سمجھنے کیلئے مطالعہ اور عمل کیلئے مسلسل جدوجہد اور استقامت در کار ہے۔ تاہم اتنا بھی دشوار نہیں کہ اسے زندگی میں لا یا ہی نہ جاسکے۔ ان شاء اللہ پختہ عزم کے ساتھ چلنے والے اہل اخلاق کو پروردگار مراد تک ضرور پہنچا دیتا ہے۔

یہ عظیم حل درج ذیل سات بنیادی نکات پر مشتمل ہے:

- (1)- اپنی حقیقت کی پہچان، (2)- دنیا کی اصل حقیقت سے آگاہی، (3)- مقصد حیات کو جانا، (4)- تعلق باللہ / توکل و تفویض، (5)- مصائب و آلام کی اصل وجوہات سے آگاہی، (6)- تقویٰ، صدقہ، استغفار، اور (7)- دعا کا سہارہ

ان سات نکات کی اصل حقیقت سے آگاہی کا منبع ”قرآن حکیم“ ہے۔ لہذا قرآن حکیم پر غور و فکر کے ذریعے ان حقائق سے آگاہی دکھوں کا اصل مدار ہے۔ لہذا من و سکون اور چین و راحت پانے کیلئے تہائی میں بیٹھ کر قرآن حکیم پر غور و فکر کرنا ناگزیر ہے۔ یہاں اسی سرچشمہ ہدایت کی روشنی میں ان سات نکات کی مختصر وضاحت پیش خدمت ہے:

نحوٗ حقوق العباد : یہ حل انشاء اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کیلئے حقیقی مرہم ثابت ہو گا، تاہم بانچواں نکتہ یعنی انسانوں کی طرف سے اذیت و پریشانی کے متعلق چند ضروری نکات ذہن نشین کر لیں:

عام بُرے انسانوں سے تو ہر قسم کی تکلیف: بدکلامی، بعض وعداوت، غیبت، حق تلفی، ظلم وزیادتی، چوری ڈاکے، قتل و غارت..... کامانہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ جبکہ رشتہ دار اور قربی دوست احباب (جود دین سے دور ہیں) ان سے ذمے دار یوں کے التزام اور حقوق کی ادائیگی میں غفلت سمیت ”حسد“ کی بنا پر انسان ظلم وزیادتی کا نشانہ بن سکتا ہے۔ وہی انسان تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں، جن سے تعلق ہوتا ہے اور جو دنیادار ہوتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ یعنی لوگوں سے تعلق

جتنا زیادہ گہرا ہوگا، اسی قدر زیادہ تکلیف کا باعث بنے گا۔ دیگر لوگوں کی نسبت رشتہ داروں اور دوست احباب سے تعلق چونکہ زیادہ ہوتا ہے، اسلئے عموماً حسد (Jealousy) بغض، کینہ اور غیبت کی بنا پر ان سے نقصان کا اندیشہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ: جائیداد، وراثت، لین دین، رشتہ ناطوں میں کمی بیشی..... لڑائی جنگروں تک لے جاتی ہے، بلکہ نوبت قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔

مزید یہ کہ شوشل میڈیا: موبائل، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، انٹرگرام، فیس بک، یو ٹیوب..... دو رہاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے جس سے باہمی تعلقات (Mutual Relations) کا بہت بڑی طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ میاں بیوی، بچے، دوست احباب..... لوگوں کا سارا وقت انہیں چیزوں نے چھین لیا ہے۔ ایک دوسرے سے بات چیت، میل ملاپ.... کیلئے لوگوں کے پاس اب فرصت، ہی نہیں رہی جس سے تعلقات میں فاصلے (Gaps) پیدا ہو گئے ہیں۔ بچے والدین سے دور، بیوی خاوند سے اور خاوند بیوی سے..... یہاں تک کہ معاملہ تعلقات کے انقطاع تک جا پہنچتا ہے۔

شوشنل میڈیا کے فتنے سمیت دیگر ذکر کردہ گھمبیر صورت حال سے بچنے کیلئے درج ذیل نکات خصوصی طور پر ذہن نشین رکھنے ضروری ہیں:

(۱) علمی آگاہی: حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ملحوظ رکھنا اللہ کے ہاں کس قدر ضروری ہے اور اس کا لحاظ نہ رکھنا کس قدر ہلاکت کا باعث ہے، اس پر علمی آگاہی حاصل کی جائے۔

(۲) حرص ولاچ سے بچنا: اس صورت حال کی ایک بڑی وجہ "حرص ولاچ" بھی ہے۔ اس ضمن میں اللہ کی رضا، اخروی کپڑا اور ہلاکت کے خوف سے صبر اختیار کرتے ہوئے دیانتداری کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے۔ صبر اختیار کرتے ہوئے نبی رحمت ﷺ کے اس شہری اصول کو اپنالیا جائے کہ: "تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کیلئے

وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔" (بخاری، کتاب الایمان، رقم: 13)

یعنی لینے اور دینے کا معیار ایک ہو جائے۔ دوران تقسیم اچھی چیز خود رکھ لینا اور ناقص دوسروں کو دے دینا مسلمانی نہیں۔ اگر ہمیں خود نقصان سے بچنا پسند ہے تو دوسروں کیلئے بھی یہی خواہش ہونی چاہیے۔ اللہ کی

پکڑ، اخروی فلاح پیش نظر ہوتے ہی انشاء اللہ صبر نصیب ہو جائے گا، حرص ولاچ پر قابو اور اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی ترغیب ملے گی۔

(۳)۔ محض دنیاداری کی بجائے رضاۓ الہی اور اخروی فلاح کو ملحوظ رکھنا: حقوق العباد میں پامالی کی تیسرا بڑی وجہ رضاۓ الہی اور اخروی فلاح کو ملحوظ رکھنے کی بجائے محض دنیاداری کی خاطر تعلقات نبھانا ہے۔ اس ضمن میں یہ انتہائی اہم بات ملحوظ رہے ہے کہ:

”دنیاداری کی نیت سے کسی کا کتنا ہی فائدہ کر لیا جائے پھر بھی وہ خوش نہیں ہو پاتا، گلے شکوئے نہیں جاتے۔ کہیں ایک جگہ بھی اونچ نیچ ہو جائے تو سب کیا کرایا بے کار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب لوگوں کے ساتھ تعلقات اللہ کی رضا مندی یا اخروی فلاح کی خاطر ہوں گے تو انشاء اللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ لوگوں کا فائدہ جب اللہ کو راضی کرنے اور اپنی آخرت بچانے کی غرض سے کریں گے تو شکوئے شکائقوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ صبر نصیب ہوگا اور معاملات دیانتداری پر آجائیں گے۔ کسی سے فائدہ ہو یا نقصان، عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوٹے گا۔“

حقوق العباد کے حوالے سے ان تین بنیادی نکات کو ملحوظ رکھنے سے ان شاء اللہ باہمی تعلقات میں توازن نصیب ہو گا جس سے ہماری شوشنل لائف بہتر ہو گی اور انسان سُکھی ہو جائے گا۔

اس ضمن میں تفصیلی آگاہی کیلئے دیکھئے ہماری تحریر: (حقوق العباد)

اب ہم جملہ پر یثانیوں سے نجات کے حقیقی حل کے مذکورہ نکات کی وضاحت پیش کرتے ہیں:

(۱)۔ اپنی حقیقت کی پہچان

عام طور پر ہم صرف اپنے مادی وجود کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارا وجود تین حصوں پر مشتمل ہے:

(۱)۔ جسم (یعنی مادی قالب)، (۲)۔ نفس (غیر مرعی، غیر مادی) اور (۳)۔ روح (غیر مرعی، غیر مادی)۔ جب ہم جسم یعنی مادی قالب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور نفس اور روح جو غیر مادی حقیقتیں ہیں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر حقیقت سے بہت دور جا گرتے ہیں۔ خواہشات اور جسم کے تقاضے پورے کرنا ہی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ خواہشات کی آہنی زنجیریں ہمیں جکڑ لیتی ہیں۔ پھر امن و اطمینان (جو

روح کی آبیاری سے ملنا (خدا) اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ یوں وقت خوشیاں اور مزے تو بقدر کا وش ملتے رہتے ہیں جو "اطمینان قلب" کی بجائے "اضطراب" کا باعث بنتے ہیں۔ لہذا حقیقی اطمینان و سکون کیلئے اپنے آپ کو پہچانا بہت ضروری ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ اور انکا باہمی ربط کیا ہے؟ جب ہم اپنی حقیقت جان پائیں گے، صرف مادی قلب کو ہی سب کچھ سمجھنے کی بجائے، نفس اور روح کو بھی جسم کا ہم جزو سمجھیں گے تو دنیا کو حقیقت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق نصیب ہو گی اور اصل منزل کی طرف گامزن ہو پائیں گے۔ مشہور قول ہے کہ ﴿مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ﴾ "جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا"۔ اس ضمن میں اپنے آپ سے آگاہی کیلئے دیکھنے ہماری تحریر (انسانیت کی عظیم ترین آفت)۔

(2) دنیا کی اصل حقیقت سے آگاہی

نوٹ: اس ضمن میں جو معلومات دی جائیں گی انکا مطلب دنیا کی مطلقاً نعمتی کرنا مقصد نہیں۔ دنیا کا جائز حصول اور اسکا جائز استعمال تو باعث خبر ہے اور اس میں سے اللہ کا حق نکالتے رہنا نہ مت کی بجائے قابلِ تحسین ہے۔ مزید یہ کہ حسن نیت کے ساتھ: اللہ کی رضا، خدمتِ خلق کے جذبے سے انسانی فلاح و ہمدردی، ضروریات پر ملکی تعمیر و ترقی..... وغیرہ کیلئے کام کرنا دنیا کی بجائے دین کے، ہی تقاضوں میں شمار ہو کر اجر کا باعث ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان بھکاری بن کر ذلیل ہوں بلکہ خودداری اور عزت و غیرت چاہتا ہے۔ لیکن خود غرضی، حرص و لالج کی بنا پر دوسروں کی حق تلفی، عیش و عشرت میں پڑ کر سارے وسائل دنیا کی نظر کر کے آخرت کو نظر انداز کرنا ہلاکت ہے۔

یہاں مخصوص دنیا کیلئے جینے مرنے والوں پر دنیا کی حقیقت واضح کی گئی ہے، تاکہ اس ضمن میں پہنچے والے صدامات سے نجات نصیب ہو سکے۔

دنیا کی حقیقت سے آگاہی، ہی دنیوی پریشانیوں کا اصل مرہم ہے۔ دنیا کی حقیقت سے نا آشنا رہنا ہی اصل پریشانی ہے۔ جو دنیوی حقیقت کو نہیں جان پاتا اسکی پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتیں خواہ کتنی ہی آسائشیں اکٹھی کر لی جائیں۔ جب ہم دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھیں گے تو پھر یہاں کے مصائب ہماری کمر توڑ کر کھدیں گے۔ ہم تو اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن اصل بات تو وہی ہے جو ہمارے اور

اس دنیا کے بنانے والے نے بتائی ہے۔ حقیقت حال سے آگاہی کیلئے چند آیات ملاحظہ کریں:

یہ تو بس متاع ہے: ارشاد ہوا:

﴿يَقُولُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ (المومن: 40؛ آیت: 39)

”اے قوم دنیا کی زندگی تو نہیں مگر سوائے متاع کے اور یقیناً آخرت ہی ٹھرنے کی جگہ ہے۔“

ہم دنیا کو دار لقرار (ٹھرنے کی جگہ) اور آخرت کو ویسے ہی بھولے ہوئے ہیں، جبکہ پورا دگار نے دنیا کو متاع (گزرگاہ) اور آخرت کو دار لقرار کہا ہے۔ وہ چیز جو بہت عارضی طور پر دی جائے اور جلد واپس لے لی جائے وہ متاع کہلاتی ہے۔ یا وہ چیز جس کے اپنا ہونے کا گمان ہو لیکن وہ انسان کی اپنی ملکیت نہ ہو وہ متاع کہلاتی ہے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے انسان کا بچپن، جوانی، وقت..... سب اس کے ہاتھ سے چھنتا جاتا ہے۔ جب دنیا کے متاع ہونے اور آخرت کے دار لقرار ہونے کی حقیقت ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی اور ہم دنیا کو آخرت کے تابع کر دیں گے، تو پھر ان شاء اللہ یہاں کی پریشانیاں بڑی تکلیف کا باعث نہیں بنیں گی، بلکہ بڑی آسانی سے گزر جائیں گی۔

اسی ضمن میں مزید متنبہ کیا:

﴿أَللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ وَ فَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَا

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ (سورہ رعد: 13؛ آیت: 26)

”اللہ ہی جس کی روزی چاہتا ہے بڑھادیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے گھٹاتا ہے۔ اور یہ تو (محض) دنیاوی زندگی پر ہی خوش ہو گئے ہیں حالانکہ دنیا تو آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر صرف ایک متاع (یعنی نہایت حقیر پوچھی)۔“

نرا، ہی دھوکہ! دنیا کی زندگی تو نہیں ہے کچھ بھی، سوائے نزے، ہی دھوکے کے، ارشاد ہوا:

﴿وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورٌ﴾ (آل عمران: 3؛ آیت: 185)

”اور نہیں ہے دنیا کی زندگی کچھ بھی سوائے نزے، ہی دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔“

یعنی اگر مقصود صرف دنیا کی ہی زندگی ہے تو یہ سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ اس نے ہماری

آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جانا ہے۔ صرف موجودہ اور آنے والے لمحات میں وقت محسوس ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہمارے شب و روز گزر کا ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں تو ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ صرف ایک گز را ہوا خواب محسوس ہوتے ہیں۔ زندگی کل چار سینڈ کی طرح ہے: بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھا پا اور بڑھا پے سے موت..... اور بوقت موت پچھے گزری ہوئی ساری زندگی ایک لمحہ ہی محسوس ہوتی ہے۔ پس جس کے دل میں دنیا کے دھوکہ ہونے کی حقیقت جاگریں ہو گئی ہو، مصائب اسکے لئے بڑی اذیت کا باعث نہیں بن پائیں گے۔

یہ تو کچھ بھی نہیں: یہ دنیا جسکے لئے ہم جیتے مرتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں:

﴿وَ مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهُيَ﴾

الْحَيَّانُ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ ﴿عنکبوت: 29﴾

”اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا اور یقیناً آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے، کاش تم جان جاتے۔“

کھیل اور تماشا تو بہت تھوڑے وقت کیلئے منعقد ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس زندگی نے بھی تماشے کی طرح بہت جلد ختم ہو جانا ہے اور پھر آخرت کی ابدی زندگی شروع ہونی ہے۔ کاش یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور اسکی سمجھ ہمیں یہیں اسی دنیا میں آجائے تاکہ ہماری زندگی سوکھی ہو جائے۔

پریشانیوں کے توڑ کے ضمن میں نبی کریم ﷺ نے نہایت موثر رہنمائی یوں فرمائی:

بروز قیامت جہنمیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لاایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال رہا ہو گا، اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا: اے ابن آدم! کیا تو نے کبھی بھلانی (راحت) دیکھی؟ کیا تجھ پر (کبھی) خوشحالی کا گزر ہوا؟ وہ کہے گا نہیں، اللہ کی قسم اے میرے رب۔ اور جنتیوں میں سے ایک شخص کو لاایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی اور مصیبت زدہ تھا، اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا: اے ابن آدم! کیا تو نے کبھی سختی اور تنگی دیکھی؟ کیا تیرے ساتھ کبھی سختی کا گزر ہوا، وہ کہے گا نہیں اللہ کی قسم، میرے ساتھ کبھی سختی

کا گزر نہیں ہوا، نہ میں نے کبھی سختی اور تکلیف دیکھی۔” (مسلم، صفات المنا فقین، رقم: 2807)

یہ ہے آخرت کے مقابلے میں دنیوی نعمتوں اور پریشانیوں کی حقیقت، کاش ہم اسے من میں بٹھالیں۔ یاد رکھیں! ہمیں آخرت کی لافانی زندگی کیلئے پیدا کیا گیا ہے، ہم اسی زندگی کو زندگی سمجھ بیٹھے حالانکہ یہ تو اصل زندگی کی تہذیب ہے۔ یہ تو امتحانی وقفہ ہے جسے موت ڈال کر ابدی زندگی سے کاٹا گیا ہے۔ موت کا قاصد بغیر بتائے کسی لمحے بھی دستک دے سکتا ہے۔ ویسے تو ایک منٹ کی بھی گارنٹی نہیں، لیکن زندگی پوری ہو بھی گئی تب بھی ۲۰۰۷ء سال دیکھتے ہی دیکھتے پل بھر میں گزر جانے پڑے۔ اس برف کے بلاک نے بہت جلد غائب ہو جانا ہے۔ جو وقت آنے والا ہواں میں تو گلتا ہے کہ وقت ہے لیکن جو نہیں وقت گزر کر ماضی کا حصہ بن جائے تو وہ خواب محسوس ہونے لگتا ہے۔ سابقہ گزری ہوئی زندگی پر نظر دوڑائی جائے تو پل بھر ہی محسوس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو وقت آگے رہ گیا ہے اس نے بھی بہت جلد گزر جانا ہے۔ پھر یہ حقیقت بروز قیامت اچھی طرح کھل جائے گی۔ اس دن انسان اپنی دنیا کی زندگی کی بابت خود اقرار کرے گا:

﴿كَانُهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَّاهٍ﴾ (النازعات: 46)

”جس روز دیکھیں گے وہ قیامت کو تو ایسا لگے گا گویا نہیں رہے وہ دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح“، موت کے وقت تو سب کو سمجھ آتی جانی ہے لیکن عقلمندی جیتے جی ہی اس دھوکے سے نکل جانے میں ہے، تاکہ اصل مقصود کو پایا جاسکے۔

دنیا سے حاصل کیا! حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو زندگی اگر اخروی فلاح کو مقصود بنائے بغیر محض دنیا کیلئے گزاری جارہی ہے تو یہاں سوائے مشقت کے حاصل بھی کیا ہو رہا ہے؟ صبح کا ناشتہ دوپھر تک ختم، شام کا کھانا صبح تک ختم اسی طرح وقت کے ساتھ ہر شے یا تو بوسیدہ ہوتی جاتی ہے یا فنا۔ دنیا کی ہر شے ساتھ ساتھ ہی مٹتی جاتی ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مٹنے والی دنیا کا ہونے کی بجائے ہمیشہ باقی رہنے والے خزانے کی دعوت دی ہے:

﴿الْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ الْبِقِيَّةُ الصِّلْحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ خَيْرٌ أَمَلًا﴾ (الکھف: 46:18)

”مال اور بیٹی تو (صرف) دنیوی زندگانی کی رونق ہیں اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں
، وہ تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی ہیں ثواب اور امید کے لحاظ سے۔“

ہماری ساری امیدیں دنیوی زندگی کی مٹ جانے والی اشیاء سے ہی وابستہ ہوتی ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ
نے حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ تمہاری امیدیں تو ہمیشہ کام آنے والی نیکیوں سے
وابستہ ہونی چاہئیں۔ کیا ہم حقیر اور عارضی زندگی کی جگہ بہتر اور دائیٰ نعمت (نیکیوں) پر نظریں نہیں
جائیں گے....؟

مزید یہ کہ حقیقت میں دنیا مصائب و آلام کی جگہ ہے، بہت سارے مصائب تو ہر وقت ساتھ لگے
ہوئے ہیں جیسے: رزق کیلئے شب و روز کی محنت، کام کا ج کی تھکن تھکاوٹ، رہن سہن کیلئے تنگ و دو،
صفائی سترہائی کی جد جہد، شدید گرمی، سردی کا سامنا..... پھر بہت سی تکالیف و قافو قتا آتی جاتی
رہتی ہیں جیسے: بیماریاں، حادثات، آفات و بلیات، زلزے، آگ، کرونا، ڈینگی..... وغیرہ۔ اللہ
کے قانون کو ملحوظ رکھ کر زندگی بسر کرنے سے یہ تکالیف بھی اجر کا باعث بن جاتی ہیں، لیکن محض دنیا
کیلئے جینا سوائے ذلت کا ٹنے کے کچھ نہیں۔ مزید یہ کہ زندگی یہ مشکل کا ٹنی ہی ہے تو کسی بڑے مقصد
(Creator meaning of Life) کے تحت جئیں۔

پس معلوم ہوا کہ زندگی کی حقیقت وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ تو ایک گزرگاہ ہے، حقیقت نہیں بلکہ دھوکہ
ہے۔ یہاں کی خوشیاں بھی چند روزہ ہیں اور تکالیف بھی چند روزہ..... یہ خلق جب ہمارے من
میں بیٹھیں گے تو ہی دھوکوں کا مرہم نصیب ہو پائے گا۔ یہ حقیقت ایک دن میں تو نصیب نہیں ہو جائے
گی۔ بلکہ آگاہی کے بعد مسلسل اچھی صحبت میں رہنے کے بعد یہ سعادت نصیب ہوگی۔

اس ضمن میں تفصیل کیلئے دیکھئے ہماری تحریر: (راہ فلاح کی پہلی گھاٹی)

(3) حقیقی مقصد حیات کو جانا

ہمیں کیوں تخلیق کیا گیا ہے؟ کس مقصد کے تحت خالق نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے؟ جینے کا ایک
بڑا مقصد (Creator Meaning of Life) ہے اور ایک چھوٹا مقصد (Lessor Meaning of Life)۔ نفس کی تسلیم کی خاطر صرف مادی

تقاضوں: خواہشات کی تکمیل، کھانا، پینا، رہن سہن، انجوائے منٹ، تفریحات کیلئے ہی جینا مرنا، زندگی کا چھوٹا مقصد ہے جسے ہم سب کچھ سمجھتے ہیں۔ جبکہ ذاتیات اور وجود کے مادی تقاضوں سے باہر نکل کر: اپنے خالق کی پہچان، اسکی توحید کا ادراک، رسالت، خدمتِ خلق، حقوق العباد، انفاق، دعوت دین سمیت دیگر دینی تقاضوں کو قرآن سے جاننا اور اللہ کے احکامات، اسکی حدود کی پاسداری پر جینا، زندگی کا بڑا مقصد ہے۔

ان حقوق سے ٹھیک ٹھیک آگاہی، ہی ہماری پریشانیوں کیلئے اصل مرہم ہے۔ لیکن اگر ہمیں اصل بات سمجھنہ آسکے (جو کہ اکثریت کو سمجھنہ میں آپا تی) تو پھر دنیوی صدماں پر صبر نصیب ہونا بہت مشکل ہے۔

انسان کا عمومی مقصد حیات: انسان جب بلوغت کو پہنچتا ہے تو عام طور پر اسے یہی سمجھ آتا ہے کہ: ”محض دنیاوی زندگی میں کامیاب ہونا، اعلیٰ گھر کا حصول، دنیاوی آرزوں کی بھرپور تکمیل اور کثیر مال و دولت اکٹھا کرنا، ہی اصل مقصد ہے۔ اسکے گھروالے بھی اسے یہی بتلاتے ہیں اور اسی راستے پر چڑھانے کے لیے بھرپور تگ و دو کرتے ہیں۔ اس صورت حال میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار آخوت کی بجائے صرف دنیا بن جاتا ہے اور جن کے پاس یہ سب کچھ نہ ہو وہ اگر چہ متقی ہوں اسے وہ ناکام ہی نظر آتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے حالات اور صلاحیتوں کے مطابق اس مقصد کے حصول میں اپنی زندگی کھپانے کا عہد کر لیتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ کہ اگر صرف یہی مقصد ہوتا تو پھر اس دنیا کے امیر ترین لوگ انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے؟“

ظاہر ہے جب مقصد حیات یہ ہے تو پھر پریشانیوں سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟

مقصد حیات ہمارے خالق کی نظر میں: انسان کی اپنی نظر میں اسکے مقصد حیات کو جاننے کے بعداب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خالق ہمارے مقصد تخلیق کی بابت کیا ارشاد فرماتا ہے۔؟ انسان کا خیال ہے کہ وہ محض دنیا کے لئے پیدا ہوا ہے، جبکہ خالق نے اسکی تردید کرتے ہوئے اصل مقصد کی طرف یوں اشارہ کیا ہے:

☆ ﴿أَفَحَسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنُكُمْ عَبَّادًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (المونون: 23: 115)

”کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف

لوٹائے ہی نہ جاؤ گے۔؟“

☆ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (الأنبياء: 21)

”ہر جان موت کا مزاچکھنے والی ہے اور ڈالتے ہیں ہم تمہیں بُرے اور اچھے حالات میں آزمائش کیلئے اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔“

یہاں حقیقت کو بہت واضح کر دیا گیا ہے کہ مختلف حالات کے تحت ہماری آزمائش کی جارہی ہے کہ ہم اچھے اور بُرے حالات میں ایمان پر قائم رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ وہ عظیم حقیقت ہے اگر من میں بیٹھ جائے تو خواہشات کا جادو ٹوٹ جائے اور دنیا کی پریشانیوں سے نجات مل جائے۔

☆ ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوْكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ (الملک: 67-2)

”وہ ہستی جس نے موت و حیات کا سلسلہ (اسلنے) جاری کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔“

☆ ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا نَبْلُوْهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ (الروم: 30)

”روئے زمین پر جو کچھ ہے اسے زمین کی زینت کا باعث بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”بے شک دنیا شیریں اور شاداب ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشین بنا کر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ چنانچہ تم دنیا کے (فریب) سے بچو اور عورتوں کے (فتنه اور مکر) سے بچو۔“ (صحیح مسلم، کتاب الرقاق)

☆ ایک اور جگہ بڑے واضح انداز میں پروردگار نے فرمایا:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾ (الذاريات: 51؛ آیت: 56)

”اور نہیں ہے جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد سوائے اسکے (کوئی اور) کہ وہ میری بندگی کریں۔“

کیا واقعی ایسا ہے؟ ان آیات کو جب انسان سنتا ہے تو اسے یقین نہیں آتا کہ کیا واقعی ہمیں بنانے کا مقصد یہ ہے؟ یہ تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں ہم نے آنکھیں کھولیں وہاں یہ کام بطور مقصد حیات نظر نہیں آتا۔ اسکے برعکس زندگی کا اصل مقصد خواہشات کی بھر پور تکمیل ہی نظر آتا ہے۔ وہ رب جسکی نعمتیں بارش کی طرح انسان پر برس رہی ہیں، سرتاپاؤں جسکے انعامات میں انسان ڈوبا ہوا ہے، تو اسی کی بندگی انسان کا مقصد حیات کیوں نہ ہو.....؟

آسان الفاظ میں: اگر ہم مذکورہ مقصد کو آسان الفاظ میں بیان کریں تو ہمارا مقصد تخلیق یہ ہے: ”اس چند روزہ دنیاوی زندگی کو لا فانی اخروی زندگی کیلئے امتحان گاہ بنایا گیا ہے۔ خوشی اور غمی کے مختلف حالات پیدا کر کے انسان کو آزمایا جا رہا ہے کہ کون مشکلات پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے خالق کی فرمانبرداری میں رہتا ہے اور کون بے صبری، ناشکری اور نافرمانی پر۔ ہوائے نفس کے بُرے تقاضوں اور شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے خالق کے احکامات کی پابندی میں زندگی بسر کرنا ہماری تخلیق کا اصل مقصود ہے۔ زندگی کو پورے دین یعنی (عقائد و نظریات، عبادات اور اخلاقیات و معاملات) کو اللہ کے احکامات اور اسوہ رسول ﷺ کے تابع بسر کرنے کا نام ہی عبادت ہے جو کہ جن و انس کی تخلیق کا اصل مقصد ہے۔ تخلیق کے اس مقصد کے قیام کیلئے اپنی اپنی حیثیت اور دائرہ کار کے تحت دعوت دین، امر بالمعروف اور نہیں عن الممنکر کی ذمہ داری ادا کرنا۔ مزید یہ کہ: اسلام اور ملک و ملت کے دفاع کیلئے ضرورت پڑنے پر جہاد کیلئے تیار رہنا۔ لیکن جہاد نہیں کہ انفرادی طور پر ہر کوئی اٹھ کھڑا ہو بلکہ یہ ایک بہت سنجیدہ ذمہ داری ہے جو ناگزیر حالات میں شرائط اور قانون و قاعدے کے تحت اسلام اور ملک و ملت کے دفاع کی خاطر کفار کے خلاف اسلامی حکومت کی کال کے تحت ہے۔

مقصد حیات کو پورا کرنے کی تین بنیادی شرائط ہیں جن پر عمل پیرا ہوئے بغیر یہ مقصد کسی صورت پورا نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہیں:

- ۱۔ ضروری دینی احکامات کو جانے کا صحیح علم (قرآن و سنت سے) حاصل کرنے کی بھرپور تگ و دوکرنا۔
- ۲۔ ٹھیک ٹھیک علم حاصل ہو جانے کے بعد ان احکامات (پورے دین: عقائد و نظریات، عبادات اور اخلاقیات و معاملات) کو خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے ترجیح کے ساتھ اپنی زندگی پر لاگو کرنا، اور خدا نخواستہ کبھی کوتا ہی ہو جائے تو فوراً معاافی کے ذریعے پلٹ آنا۔
- ۳۔ حسب استطاعت فریضہ دعوت و اصلاح کیلئے کاوش کرنا۔

حقیقی مقصد حیات تک رسائی کے درج ذیل پانچ اہداف ہیں:

- (۱)۔ اللہ کی معرفت یعنی اسکی پہچان کرنا، (۲)۔ اسکی بندگی کرنا اور تو حید پر جم جانا، (۳)۔ نکاح کے ذریعے بقاء نسل انسانی کا ذریعہ بنانا اور اولاد کی تربیت و کفالت کرنا، (۴)۔ انسانیت کی صحیح دینی رہنمائی کرنے کا ذریعہ بننا، (۵)۔ انسانی ہمدردی اور خدمت خلق۔

بڑے مقصد (Greater meaning of Life) کو پانے کیلئے فرائض و واجبات کی پاسداری اور حلال حرام کی تمیز کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ مزید سبقت کیلئے بڑے مقصد کے درج ذیل بڑے اہداف ہیں:

- (۱)۔ دعوت دین، (۲)۔ اللہ کی یاد اور نفلی عبادت، (۳)۔ زکوٰۃ سے زائد انفاق، (۴)۔ خدمت خلق: اللہ کی رضا کی خاطر ملک و قوم کی اپنی صلاحیتوں اور اسباب سے خدمت اپنی استعداد کے مطابق ان میں آگے بڑھنے کا عزم کریں۔

پس اس حقیقی مقصد حیات کو پانے پر ان شاء اللہ صدماں پر صبر و برداشت نصیب ہو گا جو اطمینان و عافیت کا باعث بنے گا۔ اس ضمن میں شاعر نے زندگی کی حقیقت کو یوں کھولا ہے:

کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی تے کوئی چھوڑ کے چھپھ مل چلیا
 کوئی پلیا ناز تے نخڑیاں وچ کوئی ریت گرم دے تھل پلیا
 کوئی بھل گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا
 اتھے ہر کوئی فرید مسافر اے کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا

مزید تفصیل کیلئے دیکھنے ہماری تحریر: (مقصد حیات)

(4) تعلق باللہ / توکل و تفویض

اللہ تعالیٰ جو خالق و مالک ہے۔ ہر چیز کا قبضہ و اختیار اسی کے ہاتھ ہے۔ اسی کے دم سے یہ کائنات روای دواں ہے۔ اس کے ساتھ مظبوط تعلق ہی پر بیشانیوں اور دکھوں کا حقیقی مداوا ہے۔ اللہ کو مان لینا کافی نہیں، بلکہ جب تک ہر نوع کے شرک سے پاکی حاصل نہ ہو جائے اور اسکی وحدانیت من میں رج بس نہ جائے، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ اللہ کے احکامات اسکی حدود کی کماحتہ پاسداری، شرک سے پاکی اور وحدانیت کا نور ہی اللہ پر صحیح معنوں میں توکل و تفویض کا باعث بنتا ہے جس سے دنیا جہان کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ ”توکل“ یہ ہے کہ، اللہ کو حرف آخر سمجھتے ہوئے جائز اسباب اور کوشش کے بعد نتیجے کے حوالے سے اللہ پر بھروسہ کر لیا جائے اور ”تفویض“ کا مطلب معاملہ اللہ کے سپرد کر کے ہر قسم کے خوف و اندیشوں سے آزاد ہونا ہے۔ انبیاء علیہم السلام سمیت حقیقی اہل ایمان کا اور دیہی ہے کہ: ﴿ حسِبْنَا اللَّهُ وَ نَعَمُ الْوَكِيلُ ﴾ (سورہ آل عمران: 173)

”ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا خوب کارساز ہے۔“

کارساز وہ ہستی ہے جو تمام مخلوقات: انسان، جن، حیوانات، چرند پرند، جمادات..... کے تمام احوال سے ہر لمحہ آگاہ ہو اور ان کے ہر قسم کے حالات (بشمول ماتحت اور مافق) تبدیل کرنے پر مکمل قادر ہو اور جس پر کامل بھروسہ کیا جاسکے وہ کارساز ہے۔ اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتِ با برکت ہے، اسکے سوا کوئی اور نہیں۔

صرف اللہ ہی کو کارساز بنانا انسانیت کی معراج ہے جسے پانے کیلئے: ہمہ تن اللہ کی یاد، اسکی بندگی اسکے ساتھ وابستگی، شدید محبت اور اسکے احکامات کی پیروی اختیار کر کے جائز اسباب تک محدود رہ کر اپنے معاملات اسکے سپرد کر کے ہر خوف و خطر فکر و اندیشہ سے آزاد ہو کر قابل رشک ہو جائیں۔ جیسا کہ ایک مرد مؤمن نے اللہ کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگاتے ہوئے کہا:

﴿ وَأُفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ (سورۃ المؤمن: 44)

”اور میں اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کرتا ہوں یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔“

رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے:

”اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، میں تجھ پر ایمان لا یا۔ میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا۔ تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا اور تیری وجہ سے ہی میں نے (دین کے دشمنوں) سے جھگڑا کیا۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبد نہیں۔ تیرے غلبے کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے کہ تو مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ تو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی جبکہ تمام جن و ان مرجائیں گے۔“ (بخاری: 7383، مسلم)

یہ م Hispan الفاظ نہیں بلکہ یقین و عمل کی عظیم جھلک ہے۔

پس اللہ کے ساتھ شرک سے باک مضبوط تعلق ہی درحقیقت ہماری دنیا و آخرت کی ساری پریشانیوں کا اصل مداوا ہے۔ بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ مذکورہ حقیقی تعلق قائم کر کے قابل رشک ہو جائیں۔ اس ضمن میں تفصیل کیلئے دیکھئے ہماری تحریر (توحید: لا إله إلا الله)۔

(5)۔ مصائب و آلام کی اصل وجوہات سے آگاہی

عام طور پر مصائب و آلام کو اللہ کی گرفت اور عذاب سمجھا جاتا ہے جس کی بنا پر انسان انہیں برداشت نہیں کر پاتا۔ جبکہ اسکی حقیقت سے آگاہی بھی درد کے مادوے کا سبب بنتی ہے۔ انسان پر جو مشکلات (دکھ درد، تنگستی، بیماری، تکالیف) آتی ہیں انکی وجوہات کیا ہیں؟ اسکی درج ذیل ممکنہ وجوہات میں سے کوئی وجہہ ہو سکتی ہے:

(۱)۔ امتحان و آزمائش کیلئے، (۲)۔ دنیا پرستی کے جادو سے بچانے، گناہوں کی معافی اور مزید اصلاح کیلئے، (۳)۔ نافرانوں کو بطور عذاب کیلئے۔

(۱)۔ امتحان و آزمائش کیلئے: اللہ سے کبھی مشکل نہیں مانگنی چاہئے، ہمیشہ عافیت و آسانی کی دعا اور اسی کی کوشش کرنی چاہئے۔ بلکہ کارامد بنے کیلئے تعلیم اور ہنر کے ذریعے اپنی صلاحیت بڑھانا، متوازن عذا اور روزش کے ذریعے اپنی ”صحت“ کا بھرپور خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس نے کچھ عطا کرنے سے قبل امتحان ضرور لینا ہے، جیسا کہ پور دگار نے دو ٹوک افالاظ میں انسانیت پر اپنا قانون واضح کر دیا:

﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمْنًا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝ وَ لَقَدْ فَتَنَّا

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكَذَّابِينَ ۝﴾

(عنکبوت: 29: 2-3)

”کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ صرف اتنا کہنے پر کہ وہ ایمان لے آیا جھوڑ دیا جائے گا اور اسکی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یقیناً آزمایا گیا تھا ان لوگوں کو بھی جوان سے پہلے تھے، تو اللہ لازماً جائز کر رہے گا پسکوں اور جھوٹوں کو۔“

مزیدوضاحت کیلئے درج ذیل آیات ملاحظہ کریں:

(آل عمران: 3: 186)، (البقرہ: 2: 155-157، 214)، (توبہ: 9: 111)

اس ضمن میں مزید رہنمائی کیلئے، درج ذیل فرامین رسول ﷺ پر غور فرمائیں:

☆ ((من يرد الله به خيراً يصب منه)) (بخاری، المرضی، رقم: 5645)

”جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے۔“

☆ ”جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے (اسکے گناہوں کی) سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے۔ اور جب اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ (بندے کی اپنی بد نیتی کی وجہ سے) کرتا ہے تو اس سے اسکے گناہوں کی سزا (دنیا میں) روک لیتا ہے، یہاں تک کہ بروز قیامت اس کو پوری سزادے گا۔“

(ترمذی، الزہد، رقم: 2396، سنده حسن)

یاد رکھیں! ایمان بتاہی کاوش و قربانی اور امتحان پر ثابت قدم رہنے سے ہے۔ دنیا کا بھی اصول ہے کہ کسی بھی صلاحیت، مقام، عہدے، سٹیشن کے حصول کیلئے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے حوالے سے تو ہم نہیں گھبراتے، لیکن دین کے حوالے سے انسان بدل ہو جاتا ہے۔

مزید تفصیل کیلئے دیکھئے ہماری تحریر: (مجموعہ تحاریر، باب: 19، 20) اور (تلash رب)

(۲)۔ دنیا پرستی کے جادو سے بچانے، گناہوں کی معافی اور مزید اصلاح کیلئے: اللہ تعالیٰ لوگوں کو نافرمانی سے بچانے اور اپنا مطیع و فرمانبردار بنانے کیلئے انہیں مصائب میں مبتلا کرتا ہے شائد کہ وہ راہ

پر آجائیں، جیسا کہ فرمایا:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْ أُمَّمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاخْدُنَاهُمْ بِالْبُأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ﴾ (انعام: 6)

”اور البتہ بھیجے ہم نے رسول بہت سی امتوں کی طرف تم سے پہلے، پھر بتلا کیا ہم نے ان کو مصائب و آلام میں تاکہ وہ جھک جائیں عاجزی سے۔“

مزید فرمایا:

﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

”اور ضرور چکھائیں گے ہم ان کو مزہ دنیاوی عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے شاید کہ وہ پلت آئیں۔“ (السجدہ: 32)

(۳) نافرانوں کو بطور عذاب کیلئے: جہاں تک معاملہ ظالموں کو بطور عذاب کا ہے تو اسکی داستانوں سے تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ کس طرح قوم نوح، لوط، عاد، ثمود، تنع..... وغیرہ کے ظالموں کا قلعہ قمہ کیا گیا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔

آزمائش یا پکڑ؟

انسان پر آنے والے مصائب بطور امتحان و آزمائش ہیں یا بطور غصب؟ اس ضمن میں درج ذیل نکات بطور ہنمائی ذہن نشین رہنے چاہئیں:

(۱)۔ ہروہ مشکل جو بالآخر اللہ کی طرف پلنے کا سبب بن جائے وہ امتحان ہوگی، اسکے برعکس جو اللہ سے دوری کا سبب بنے وہ عذاب یا غصب ہوگی۔ بطور امتحان آنے والی مشکلات مایوسی کی بجائے حوصلہ اور امید پیدا کرتی ہیں۔ جبکہ بطور پکڑ اور عذاب آنے والی مصیبت نامیدی، مایوسی اور بالآخر اللہ سے دوری کا باعث بنتی ہے۔

(۲)۔ بطور امتحان آنے والی مصیبت عموماً طوالت پکڑنے کی بجائے جلد ختم ہو سکتی ہے اور رتبہ و بر باد اور ہلاکت لانے کی بجائے زندگی بخشتی ہے (لیکن یہ ضروری نہیں)۔ (واللہ اعلم)

(۳)۔ اہل ایمان کیلئے امتحان نیک و کاروں کے درجات کی بلندی کیلئے بھی ہو سکتا ہے اور انسان کے

گناہوں کو مٹانے کیلئے بطور سزا بھی۔ گھبرا نہیں چاہیے، ان دونوں صورتوں میں آنے والے مصائب بالآخر خیر و رحمت کا باعث ہی ہوتے ہیں۔ ایمان تو ابتلا کی بھٹی سے گزرنے بعد ہی کندن بتا ہے۔ اہل ایمان کیلئے امتحان پر صبر بہت عظیم اجر کا باعث بتا ہے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”طاعون ایک عذاب تھا (کفار کیلئے).... پھر اللہ نے اسے مومنین کیلئے رحمت بنادیا، اب کوئی بھی اللہ کا بندہ جو طاعون کی بیماری میں بنتا ہو جائے اور وہ (طاعون زدہ) شہر ہی میں صبر کرتا ہوا آخرت کے اجر کی نیت سے ٹھرار ہے، اسے یقین ہو کہ اسے وہی کچھ پہنچ گا جو اللہ نے اس کیلئے لکھ دیا ہے، تو ایسے شخص کیلئے شہید کی ماننا اجر ہے۔“ (بخاری، رقم: 5734)

ذکورہ حقائق سے آگاہی بھی دکھوں کیلئے یقینی مرہم کا باعث بنے گی۔

(6) تقویٰ، صدقہ اور استغفار

(۱) تقویٰ: ”اللہ کی نافرمانی و ناراضگی سے بچنا یعنی خود کو محفوظ رکھنا، اپنا بچاؤ کرنا یا اللہ کی پکڑ سے ڈرنا تقویٰ کہلاتا ہے۔“ جب کوئی شخص اس راہ کو اختیار کر لیتا ہے، تو وہ اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے۔ بطور امتحان، مصائب تو آتے جاتے رہیں گے، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہونے سے صبر، امن و عافیت اور چھکارہ بھی ہوتا رہے گا اور یہ بڑی آسانی سے گزرتے جائیں گے۔ اہل تقویٰ کی پور دگار کیسے دستگیری فرماتا ہے، صرف دو آیات ملاحظہ فرمائیں:

☆ ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرٍ هُوَ يُسْرًا ۵﴾ (الطلاق: 4:65)

”اور جو کوئی بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔“
سبحان اللہ! تقویٰ کے ساتھ آخرت تو بنے ہی بنے گی، ساتھ ہی ساتھ اللہ دنیا کے کاموں میں بھی سہولت و آسانی کی راہ پیدا کر دیں گے۔

☆ ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ۵ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ... ۶﴾ (الطلاق: 3-2:65)

”اور جو کوئی بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا وہ اسکے لئے (ہر چیز سے) نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا۔ اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسکا وہم و مگان بھی نہ ہو۔ اور جو اللہ پر

تو کل اختیار کرے گا تو وہ اس کو کافی ہو جائے گا۔۔۔“

تقویٰ پر آنے، اس پر شوق و رغبت کیلئے تو یہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ اس پر جتنا بھی غور کیا جائے کم ہے۔ اس ضمن میں مزید تفصیل کیلئے دیکھئے ہماری تحریر: (مجموعہ تحریر، باب۔۹)

(ii)-صدقہ: اللہ کی رضا اور اسکی خوشنودی کیلئے امور خیر میں مال و اسباب خرچ کرنا صدقہ کہلاتا ہے، بلکہ حسنِ سلوک سے پیش آنا، اچھی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا بھی صدقہ میں داخل ہے۔ مخلوق خدا کی خیرخواہی، صلد رحمی، ہمدردی، آسانی..... بھی مشکلات سے چھٹکارہ کا ایک نہایت موثر ذریعہ ہے۔ تکالیف سے بچنے اور آسانی پانے کیلئے آسانیاں باñٹی جائیں۔ دوسروں کی طرف سے ملنے والی ایذاوں پر حتی الامکان درگزر کرتے ہوئے ہر ممکن صبراختیار کرتے ہوئے مخلوق خدا سے ہمدردی کرنا، مال و اسباب سے مدد کرنا، دوسروں سے انتقام لینے کی بجائے حتی الامکان غفو و درگزر سے کام لینا مصائب و آلام سے نجات کا بڑا موثر ذریعہ ہے۔ بھی صدقہ ہے، جو مصائب و آلام کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب روایت میں ہے کہ:

”صدقہ بُری موت سے بچاتا، بلا کوٹالتا اور عمر کو زیادہ کرتا ہے، اور فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔“ (مستدرک علی الصحیحین للحاکم: 6491)

(iii)-توبہ و استغفار: نافرمانی کو ترک کر کے اپنی اصلاح کر لینا اور راہ راست پر پلٹ آنا ”توبہ“ کہلاتا ہے جبکہ گناہوں پر نادم ہونا، ان پر اللہ سے معافی مانگنا ”استغفار“ کہلاتا ہے۔ عظیم کام بھی مصائب کو دور کرنے اللہ کی طرف سے خیر کے دروازے کھلنے کا بڑا موثر ذریعہ ہے (دیکھئے: سورہ نوح، آیت: ۱۰-۱۲)۔ ہمارے پیارے رسول ﷺ سب سے بلند مقام و مرتبہ پر ہونے کے باوجود بھی کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ لہذا اس عظیم سعادت سے محروم نہ رہیں اور کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہیں۔

(7)- دعا کا دامن تھامے رکھنا

چونکہ ہر شر سے نجات اور ہر خیر کا دروازہ بالآخر خالق کی طرف سے ہی گھلنा ہے، اسلئے مصائب سے

بچاؤ کے حوالے سے اپنی کاوش کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا و مناجات بھی کرتے رہنا ہے تاکہ بلاوں سے نجات اللہ کی مزید نصرت میسر آتی رہے۔ دعا موجودہ تکلیف کوٹا لئے، آنے والی بلاوں کو روکنے کے ساتھ ساتھ آخر دی اجر کا باعث بھی بنتی ہے۔

نبی کریم ﷺ سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ کے باوجود بھی شب روز کثرت سے ہر قسم کے فتنوں، مصائب و آلام، تنگی و تکالیف سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے تھے۔ بلکہ صبح و شام ذکر و اذکار اور دعائیں آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحابؐ کے معمول کا حصہ تھیں۔ لہذا دعا کا دامن بھی نہ چھوڑیں، کوشش کے ساتھ ساتھ نفس و شیطان کے فتنوں سمیت یہاں پوں، حادثات، تنگی و تکالیف..... سے بچنے کیلئے عاجزی و انکساری سے، رب کے حضور بھر پور دعائیں ضرور کرتے رہیں، تاکہ ہم خالق کے حصار میں رہیں۔

خواہشات پر قابو

خواہشات کے کما حقہ پورا ہونے میں کمی رہ جانا بھی انسان کیلئے بہت حسرت و تکلیف اور بڑی پریشانی کا موجب بنتا ہے۔ یہ پریشانی دیگر تکالیف: یہاں اور حادثات.... وغیرہ سے تو ہلکی نو عیت کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں آنے والی حسرتیں اور شدید اضطراب بڑی بے چینی کا سبب بنتا ہے۔ خواہش نفس انسانیت کیلئے بہت بڑا پھندا ہے جس پر قابو پانا کوئی آسان کام نہیں۔ بہر کیف اگر قابو پالیا جائے تو انسان فرشتوں پر بھی سبقت لے جاتا ہے۔ خواہش نفس پر قابو پانے کیلئے نفسِ انسانی، روح اور خواہشات کی بابت تفصیلی مطالعہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں تفصیلی رہنمائی کیلئے ہماری کتاب (انسانیت کی عظیم ترین آفت: خواہشات کے پھندے سے آزادی) کا مطالعہ کریں۔ تاہم اس ضمن میں یہاں ہم کچھ ضروری معلومات پیش کر دیتے ہیں، جو اس بھنوں سے نجات کا سبب بن سکیں۔

مرغوبات نفس کی سات اقسام: سورہ آل عمران : آیت: 14 کے تحت دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سات قسم کی انسانی شہوات انسان کیلئے مزین (خوشنما) کی ہیں، جو انسان کی کمزوری اور نفس کیلئے بہت

مرغوب ہیں:

(۱) عورتیں (۲) بیٹے (۳) سونے اور (۴) چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور (۵) نشان لگے ہوئے گھوڑے (موجودہ دور میں گاڑیاں) (۶) مویشی اور (۷) کھیتی۔

مذکورہ مرغوباتِ نفس میں سے سب سے شدید ترین جذبہ جنسی شہوات (یعنی مرد و عورت) کا ہے، جسکا ذکر سات مرغوبات میں سب سے پہلے کیا گیا۔ اس جذبے کے بعد مال اور پھر مال سے ملنے والے دیگر مرغوبات ہیں۔ دیگر تمام جذبات جنسی جذبے سے نیچے ہیں۔ دیگر مرغوباتِ نفس تو آسانی سے قابو میں آجاتے ہیں لیکن اس یہجانی جذبے پر قابو پانا نہایت دشوار ہے۔ مرد کیلئے عورت اور عورت کیلئے مرد شہواتِ نفس کیلئے سب سے بڑا بُت ہے۔ مرغوباتِ نفس کیلئے شیطان کے پاس انسان کی ہلاکت کیلئے یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس کی شدت اکثریت کو بہا لے گئی ہے۔ اس زوردار جادو سے بچنے کیلئے اسی قدر عزم و ہمت اور خالق کی نازل کردہ ہدایات کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔

قابل غور! سورہ آل عمران، آیت: ۱۷ میں قابل غور بات یہ ہے کہ: دنیا کی تمام مرغوب چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اصل حقیقت واضح کی گئی ہے کہ یہ چیزیں دنیوی زندگانی کی مُتّاع، یعنی عارضی طور پر دی گئی چند دن کی رونق ہے، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلد فنا ہو جانا ہے۔ بس یہی اس جذبے کو قابو کرنے کا بنیادی حل ہے کہ ان چیزوں کے عارضی پن ہونے کی حقیقت من میں بھائی جائے۔

نفس کے تقاضے: جب تک سانس جاری ہے، ہر سانس کے ساتھ درج ذیل اغراض و شہوات کے زبردست تقاضے ہمہ تن پیدا ہوتے رہتے ہیں:

(۱) بنیادی ضروریات (۲) ضروریات (۳) زیب و زینت (۴) عیش و عشرت

انہیں ختم نہیں کرنا بلکہ انہیں کنٹرول کرنا ہے۔

عافیت کی راہ: انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسکی عافیت، کامیابی اور آزادی ان چاروں شکلوں کو کما حلقہ پورا کرنے میں ہے، جو کہ نراد ہو کا ہے، جبکہ حقیقی عافیت:

☆ 'بنیادی ضروریات' کو پورا کرنے اور 'ضروریات' کو محدود کرنے میں ہے۔ جو نبی انسان 'ضروریات' کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے، خواہشات کے نت نئے تقاضے اسے جکڑنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں۔

☆ 'زیب و زینت' میں اسراف و تبذیر سے بچنا اور میانہ روی اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حد سے تجاوز: عیش و عشرت اور سرکشی کی راہیں کھول دیتا ہے۔

☆ اس ضمن میں عافیت کیلئے سب سے اہم چیز "حرص ولاچ" سے بچنا ہے۔ جو خوش نصیب نفس سے اٹھنے والی ان گنت شہوات کو روٹی کاٹکر ڈال کر ان سے الگ ہو جاتا ہے، وہ کسی اور مقام پر ہوتا ہے۔

بنیادی اصول: دنیا و آخرت کی نجات کیلئے درج ذیل بنیادی اصول ذہن نشین رہے:

(۱)۔ جائز و حلال تک محدود رہنا، (۲)۔ اسراف و تبذیر سے بچنا، اور (۳)۔ حرص ولاچ سے بچتے ہوئے اپنی اپنی حیثیت میں میانہ روی کی راہ کو اپنانا گزیر ہے۔
یاد رکھیں! آزادی اور اندر کا سکون خواہشات کے بے ہنگم پھیلاو اور تنکیل میں نہیں، بلکہ انہیں قابو کرنے میں ہے۔ ایک آرزو کا تعاقب کئی دوسری آرزوں سے متعارف کرواتا ہے، جو سلسلہ درسلسلہ زنجیروں کی شکل اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان انھیں آرزوں میں جکڑتا چلا جاتا ہے، اور سارا وقت (قیمتی سرمایہ) خواہشات کی نظر ہونے سے انسان مقصد حیات سے ہٹ جاتا ہے اور اگر اچھائی برائی کی تیزی نہ کی جائے، تو دل زنگ آلوہ ہو کر منزل کھوٹی کر دیتا ہے:

﴿كَلَّا بَلْ رَأَنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (المطففين: 14)

"ہرگز نہیں، بلکہ ان کے کرتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے"

بے جا شہوات کی تنکیل اور حرص ولاچ سے جیوانی وجود تو نشونما پاتا جاتا ہے، لیکن روحانی وجود کی موت واقع ہونے سے روحانی ترقی کا سفر رک جاتا ہے۔ اور پھر سکون کی جگہ اضطراب ڈیرے ڈال دیتا ہے۔

اصل تباہی: صبر کا دامن تھامتے ہوئے، خواہشات کو قابو کر لینا تو عافیت کی راہ ہے لیکن 'خواہش کی شدت اور حرص ولاچ'، اصل تباہی کی جڑ ہے جو حلال و حرام کی تیزی کو ختم کرتے ہوئے معصیت کی

دلدل میں پھنساتی ہے۔ جوشوں کا رسیا بن گیا، گویا اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنالیا۔

شہواتِ حرص و ہوس کے پھندے سے آزادی.....؟

چونکہ شہوات کا جگڑا اور انسان کی عظیم ترین آفت ہے، اسلئے اس سے نجات اتنی آسان نہیں۔ اسکے لئے بہت کاوش کی ضرورت ہے۔ لہذا اس پھندے سے آزادی کیلئے تمام ممکنہ تدبیر کی لست دی جا رہی ہے۔ انکی تفصیل کیلئے ہماری تحریر (انسانیت کی عظیم ترین آفت) کا مطالعہ کریں۔

ان حقائق کو ذہن نشین رکھتے ہوئے من میں جگہ دینی ہے۔ ان نکات میں سے ہر نکتہ اس بھنوں سے نکلنے کا سبب بن سکتا ہے:

(۱)- قرآن و سنت سے علمی آگاہی: شہوات کے متعلق قرآن و سنت کے احکامات، اسکی حقیقت سمیت اسکے دیگر اہم پہلوؤں کو جاننا، جسکی کاوش الحمد للہ اس تحریر میں بھی کی گئی ہے۔

(۲)- حقیقی مقصدِ حیات کا ذہن نشین رہنا: اپنے زندہ رہنے کا مجازی مقصد ذہن سے نکال کر حقیقی مقصدِ حیات کو ہر وقت ذہن نشین رکھا جائے جس کی کچھ وضاحت پیچھے پیش کر دی گئی ہے۔

(۳)- رضائے الٰہی پر راضی رہنا: شہوات کے پڑے سے آزادی کا دوسرا بڑا نسخہ: دنیوی نعمتوں کے ”عارضی پن“ کے تصور کے ساتھ ”خالق کی رضا“ کو ملحوظ رکھنا ہے۔ یعنی اس بات کو ملحوظ رکھنا کہ:

(i)- جب خالق حرص و ہوس سے بچنے اور قناعت اختیار کرنے کو پسند کرتا ہے، تو پھر مجھے جو کچھ بھی ملا ہے کیوں نہ میں اس پر قناعت اختیار کروں اور حرص و ہوس اور لالج سے بچوں.....؟

(ii)- تقدیر پر راضی رہنا۔ یعنی جائز اسباب کے تحت کوشش کے بعد جو میرے لئے بہتر تھا اللہ نے مجھے دے دیا، اگر میرے لئے اس سے مزید کچھ بہتر ہوگا تو وہ مجھے ضرور دے دے گا، جو مجھے نہیں مل رہا میں وہ میرے لئے بہتر نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں بھی یہ رہنمائی دی گئی ہے کہ:

”جو چیز تمہیں مل گئی ہے وہ تمہارے علاوہ کہیں اور نہیں جاسکتی تھی اور جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں ملنے والی نہیں تھی،“۔ (طبرانی: 250/6، مجمع الزوائد: 198/7)

پھر مزید یہ کہ: یہاں کی کمیوں کا بہترین بدلہ پروردگار اگلے جہان میں دے دیں گے..... الہذا رضاۓ الہی پر ارضی رہ کر شدتِ خواہش سے آزادی نصیب ہو سکتی ہے۔

(۴)- موت کی یاد، دنیا کی بے اثباتی اور ابدی لا فانی عیش: ہر وقت اس حقیقت کو نہ بھولنا کہ میں جتنا بھی جی لوں، ایک نہ ایک دن تو میں نے بالآخر فوت ہو، ہی جانا ہے۔ یہ عارضی لذات بالآخر مجھ سے چھن، ہی جانی ہیں اور خالی ہاتھ مجھے دفنادیا جانا ہے..... اس حقیقت کی یاد دہانی مرغوباتِ نفس کے قابو کیلئے یقینی مرہم بن جاتی ہے۔ موت کا تصور کرتے ہی خواہشاتِ دم توڑ جاتی ہیں۔ اسلئے گا ہے بگا ہے قبرستان جایا جائے، جنازوں میں شرکت کی جائے اور کثرت سے موت کو یاد کیا جائے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”لذات کو کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔“ (جامع ترمذی: رقم: 2307)

دنیا کی بے اثباتی کی توبیہ حالت ہے کہ دنیا کا عیش بھی رنج و اضطراب اور دردِ سر سے خالی نہیں۔ دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہونے والا کیونکر، ہمیشہ کے اخروی مزوں کو داؤ پر لگاتے ہوئے ان عارضی اور حقیر لذات کا اسیر بننے گا...! ہماری نظر تو چیزوں کی موجودہ حالت پر ہوتی ہے جس میں وہ اپنے شباب میں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ لیکن ایک حقیقت اور بھی ہے کہ بہت جلد ان پر زوال، بڑھا پا اور بالآخر موت نے آ کر انہیں یہاں سے ہمیشہ کیلئے لے جانا ہے۔! الہذا خوبصورتی پر فریفہتہ ہوتے ہوئے ان حقائق پر بھی نظر رہنی چاہئے۔!

دنیاوی زندگی کی ہرشے کے مت جانے، اسکے عارضی و فانی ہونے کا پختہ تصور اور آخرت کا لا فانی عیش دنیاوی محرومیوں کیلئے مرہم اور مرغوباتِ نفس کو قابو کرنے کا موجب بن جاتا ہے۔

(۵)- شہوات کی اصل غایت کو جاننا: اگلہ بڑا نسخہ شہوات و لذات کی اصل غایت کو جانا ہے۔ جنت میں تو شہواتِ محض لذت و تسلیم کیلئے ہیں، لیکن یہاں محض لذات و تسلیم اصل مقصد نہیں بلکہ لذت و تسلیم تو اصل غایت کو پورا کرنے کی وجہ سے رکھی گئی ہے۔ یہاں ان شہوات کا ایک مقصد تو امتحان ہے، جیسا کہ پروردگار نے فرمایا:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُو هُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾

(الروم: 30: آیت - 7)

”روئے زمین پر جو کچھ ہے اسے زمین کی زینت کا باعث بنایا، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔“

دوسری غایت ہمارے وجود کی بقا ہے۔ چونکہ کھائے پئے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسلئے کھانے میں لذت رکھ دی تاکہ لوگ امتحان کے لئے زندہ رہیں، مرنا جائیں۔ جنسی جذبہ کی اصل غایت بقاۓ نسل انسانی ہے۔ اگر یہ شدید جذبہ نہ رکھا جاتا تو کون خاندانی ذمہ داری کے بوجھ تملے آنے کی مشکل جھیلتا؟ اسی طرح دیگر شہوات کا معاملہ ہے۔ چنانچہ ان حفاظت کو جانے اور انہیں تروتازہ رکھنے سے خواہشات کا جادو دم توڑ جاتا ہے۔

(۶)۔ مقصد اور ضرورت: ہماری زندگی میں کچھ چیزیں مقاصد اور کچھ چیزیں ضروریات کے زمرے میں آتی ہیں۔ ضروریات کی بھی اہمیت ہے لیکن جو چیز مقصد ہو اسکی اہمیت ضرورت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا اس بات اچھی طرح سمجھنے سے کہ کون سی چیزیں مقصد ہیں اور کون سی ضرورت، اس بات کا تعین کرنے اور اچھی طرح ذہن نشین رکھنے سے، خواہش نفس پر قابو کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔

(۷)۔ اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کے فائدے کلبے سوچنا: جو لوگ اپنے وجود کے تقاضوں اور اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کو خوشیاں بانٹتے ہیں۔ انہیں لوگوں کی دعا جائیں ملتی ہیں، ان پر اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ فرشتے انکے موئید بن جاتے ہیں۔ آئیں سکون قلب کی بہاریں اور شہوات کے پھندے پر قابو کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔

(۸)۔ جسم، نفس اور روح کی حقیقت کو جاننا: اپنی حقیقت یعنی جسم نفس اور روح اور انکے تقاضوں کی پہچان حاصل کرنا۔ خواہش کیا ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اسکی حقیقت کو سمجھنا، جسم کے تقاضوں (یعنی شہوت، لباس، غذا، ثمرات، بنگلے، گاڑیاں یوں) کے ساتھ ساتھ روح کی

غذا (اللہ کی یاد، قرآن فہمی، اچھی صحبت، دین کی پاسداری) کی بھی بھر پور فکر کرنا۔ جس نے روح کی فکر نہ کی وہ مارا گیا۔

(۹)- حرص ولاچ سے بچنا اور صبر و قناعت اختیار کرنا: حرص و ہوس سے بچتے ہوئے شہوات کو حلال و حرام کی تیزی اور صبر و قناعت کی لگام ڈالنا تمام اچھائیوں کی بنیاد جبکہ حرص ولاچ اور بے صبری تمام براشیوں کی جڑ ہے۔ صبراً اختیار کرنا خالق کی نظر میں کتنا عظیم کام ہے، صرف ایک آیت ملاحظہ کیجئے:

﴿أُولَئِكَ يُجْزِوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَمًا ۝﴾

(الفرقان: 25؛ آیت: 75)

”یہ لوگ ہیں کہ ان کے صبر کے بد لے میں انہیں اوپنچے اوپنچھل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے دعا وسلام کے ساتھ ان سے ملاقات کریں گے۔“ (سبحان اللہ)

(۱۰)- جانزو حلال سے خواہش کا حصول: جہاں تک ضروریات کا معاملہ ہے، خواہش پوری نہ ہونے کی بجائے اگر جائز و حلال طریقے سے پوری ہو جائے اور انسان اس پر قناعت اختیار کر لے (جو کہ بہت مشکل کام ہے) تو یہ اطمینان و عافیت کا باعث بن جاتی ہے۔ لیکن اگر صبر و قناعت نصیب نہ ہو تو پھر ایک خواہش کی تکمیل سے دس نئی امنگیں جنم لیتی ہیں اور پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں..... بالآخر انسان پھندے میں جکڑا جاتا ہے۔

(۱۱)- مرغوبات سے فاصلہ پر رہنا: آگ سے بچنے کیلئے آگ سے دور رہنا ضروری ہے۔ لہذا مرغوبات نفس (بالخصوص شہوت نساء) سے بچنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام راستے اور رخنے جو اس طرف مائل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، ان راستوں کو بند کر دیا جائے، جیسا کہ پور دگار نے فرمایا:

﴿وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ۝﴾

اور فحاشی کے قریب بھی نہ پھٹکو خواہ وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ، (الانعام: 151)

یعنی وہ محركات جو بدکاری کی طرف مائل کر سکتے ہیں جیسے: مرد عورت کا اختلاط، بلا تکلف گفتگو، نظر و نظر

کو نیچانہ رکھنا..... ان سے بچا جائے۔ فاصلہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی گناہ میں ملوث ہونے کا امکان بھی کم ہوگا۔ اگر آپ واقعتاً بچنا چاہتے ہیں، تو پھر مرغوبات سے بہت دور رہیں ورنہ آگ سے بچ نہ پائیں گے۔

(۱۲)۔ اچھی صحبت اور دعا کا اہتمام: مرغوبات نفس کو قابو کرنا، برائیوں سے بچنا اور نیکیوں پر قائم رہنا، اس وقت تک ممکن نہیں جب تک بُری صحبت سے سخت اجتناب اور اچھی صحبت: (۱)۔ اچھے لوگ جو اہل توحید، اہل رسالت اور اہل آخرت ہوں، (۲)۔ اچھی کتابیں: بالخصوص قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے رہنا، (۳)۔ اچھی جگہیں: مساجد، تہائی کے مقامات، عبرت کیلئے قبرستان، ہسپتال وغیرہ۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، چنانچہ تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔“ (ابی داؤد، الادب، 4833)

یعنی جیسا آدمی ہوگا ویسے ہی اسکے دوست ہوں گے۔ اگر اچھا آدمی بھی بُرے دوستوں کی سنگت میں رہے گا، تو امکان ہے کہ بالآخر وہ بھی بُرا ہو جائے گا۔ اگر تو آپ واقعتاً بچنا چاہتے ہیں تو پھر اپنا ماحول، سنگت بہتر کریں، ورنہ بچ نہیں سکتے۔!

(۱۳)۔ دعا: کوئی بھی خیر اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو جائے۔ لہذا شہوات کے قابو کیلئے زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ نبی کریم ﷺ نے درج ذیل خوبصورت الفاظ کے ذریعے نفس کی غلامی سے نجات کی دعا تعلیم فرمائی:

((اللَّهُمَّ أَتْ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزُكْرَاهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَرَهَا.....اللَّهُمَّ انِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ....)) (مسلم، الذکر و دعا، رقم: 6906)

”اے اللہ: میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا فرماء، اور اس کا تزکیہ فرماء اور تو بہترین تزکیہ فرمانے والا ہے..... اے اللہ: میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، ایسے علم سے جو نفع مند نہ ہو، ایسا دل جس

میں خشیت نہ ہوا اور ایسا نفس جو بھرتا نہ ہو.....“

ایک دن پر زندگی۔ پریشانی سے نجات کا عظیم حل

اگر ہم خوف و خطرات سے آزادی چاہتے ہیں تو جلد از جلد کل کی بجائے آج ہی ضروری دین (فرض و واجب اور حلال و حرام پر مشتمل) پورے کا پورا اختیار کر لیا جائے۔ فوراً بیدار ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ زندگی کسی وقت بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے، اسکی مہلت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ فریب سے بچنے کیلئے یہ حقیقت دل میں بٹھا لیں کہ وقت ہاتھ سے گیا ہی گیا۔ دن ہفتہ، مہینے اور سال پل بھر میں گزر کر ماضی کی داستان بن جانے ہیں۔ صرف وہ کام ہو سکتا ہے جسے آپ نے آج کر لیا، لہذا جس کام کو آپ واقعتاً کرنا چاہتے ہیں اسے بھی کل پر نہ ڈالیں بلکہ سب رکاوٹوں کو دور کر کے فوراً آج ہی اسے شروع کر دیں، ورنہ یہ کل شاید موت تک نہ آسکے۔ کل کے فریب سے بچ جائیں کیونکہ اگر کل نصیب ہو بھی گیا تو آپ بالضرور اس سے اگلے کل کے دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے..... پھر یہ سلسلہ موت پر ہی ختم ہو گا۔ آج سے معمول میں دین کو زندگی میں نہ لانے بلکہ کل پر ڈالنے کا صاف مطلب یہی ہے کہ ہم عمل پر آنا ہی نہیں چاہتے بلکہ خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں۔ آپ کی زندگی آج کا موجودہ دن ہے نہ کہ کل کا۔ مزید یہ کہ آپ نے ملنے والے ایک ایک دن کا حساب بھی دینا ہے، اسلئے ہر دن کی فکر کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

”جب تم شام کرو تو صحیح کا انتظار مت کرو اور جب صحیح کرو تو شام کا انتظار مت کرو اور اپنی صحت میں بیماری کے لئے اور اپنی زندگی میں موت کے لئے (کچھ) حاصل کرو“

(بخاری، کتاب الرقاۃ: 6416)

آزادی و نجات پا گیا وہ خوش نصیب جس نے حوادث زمانہ (بیماری، حادثہ، بڑھاپا، موت وغیرہ) کے آنے سے پہلے پہلے کل کی بجائے آج ہی پورے دین کو اختیار کر لیا..... لیکن ان حوادث کے رونما ہو جانے کے بعد آنکھیں کھلیں تو سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے صحت و تندرستی کی حالت میں مسجد میں باجماعت نمازِ پنجگانہ کی سچے دل سے ادا نیکی کو

زندگی کا حصہ بنالیا، خدا نخواستہ کسی حادثہ یا بیماری کی وجہ سے وہ اس قابل نہ رہا کہ اب وہ مسجد میں جاسکے یا قیام کر سکے، اب مجبوری کی حالت میں وہ جیسے بھی نماز کی ادائیگی کرے گا: گھر میں، بیٹھے یا لیٹے..... انشاء اللہ موت تک اسے مسجد میں باجماعت نماز کا ثواب ملتا رہے گا، لیکن جس نے صحت کی حالت میں ایسا نہ کیا تھا، پھر بیماری نے اسے گھر تک محدود کر دیا تو اسے وہ اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح دین کے باقی تمام احکامات (ایمان و اخلاقیات اور عبادات) کا معاملہ ہے۔ اسی حقیقت کو رسول اللہ ﷺ نے کھول کر یوں بیان فرمایا:

”جب بندہ بیمار ہوتا یا سفر اختیار کرتا ہے تو اسکے لئے اسکے مثل عمل لکھ دیے جاتے ہیں

جو وہ اقامت یا صحت کی حالت میں کرتا تھا۔“ (صحیح بخاری، البجہاد ولیسر: 2996)

جس طرح بیماری کی ویکسی نیشن سے انسان بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح حوادث کے آنے سے پہلے پہلے کل کی بجائے آج ہی اعمال کو اختیار کر لینے سے انسان حوادث کے اعمال میں رکاوٹ بن کر اخروی خسارے کا باعث بننے سے فجح جاتا ہے۔ لہذا حقیقت کو سمجھ کر فوراً اپنا لیں ان شاء اللہ دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔

خلاصہ (بیماری و تکالیف میں بچت کی راہیں)

اب ہم آخر میں بیماری اور مصائب و تکالیف میں بچت کے متعلق بطور خلاصہ اہم نکات پھر سے واضح کر دیتے ہیں۔

بیماری و تکالیف کی نوعیت

اسکی کی نوعیت دو طرح کی ہو سکتی ہے: (۱)- ہلکی تکلیف، (۲)- جان لیوا مرض

(۱)- ہلکی بیماری / تکلیف: ایسی بیماری / تکلیف جس میں دوائی یا پرہیز کے ذریعے زندگی چلتی رہے، ایسے لوگوں کیلئے عافیت کی راہ یہ کہ:

ا۔ بیماری و تکلیف کی دوا اور دعا کے ساتھ ساتھ صبر اختیار کریں جس کا بڑا اجر ہے۔

ب۔ چونکہ زندگی چل رہی ہے، موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے تائب ہوا جائیں، اپنی اصلاح کر لیں۔

فرائض واجبات کی اولین ترجیح پر ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو جو نیک اعمال: صدر حمی، لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، قربانی، صدقہ و خیرات، نوافل و مستحبات ادا کئے جاسکتے ہوں بھرپور زندگی میں شامل کر لئے جائیں۔

iii۔ اپنا موازنہ اپنے سے زیادہ مشکلات میں بتلا لوگوں سے کیا جائے تاکہ صبر کے ساتھ ساتھ شکر کی توفیق بھی نصیب ہوتی رہے۔

(۲) جان لیوا مرض: وہ قابل ترس لوگ جو جان لیوا مہلک امراض، نکالیف و حادثات میں بتلا ہیں، اگر تو زندگی تکلیف سے قبل اعمال صالحہ پر تھی تو بس صبر کر لیں خیر ہی خیر ہے، جتنی بھی زندگی اس مشکل میں گزرے گی بیش بہا اجر کا باعث ہوگی۔ لیکن خدا نخواستہ ایسا نہیں تھا تواب بھی: ا۔ دنیا کو فانی اور آخرت کو ہمیشہ کاٹھکانہ سمجھتے ہوئے سچے دل سے گڑگڑا کر اللہ سے توبہ کر لی جائے، انشاء اللہ وہ معاف فرمادے گا۔

ii۔ توبہ کے بعد ہر ممکن صبرا اختیار کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ وابستگی پیدا کی جائے، اللہ پر توکل اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے۔ دوا کے ساتھ ساتھ مسنون دعاؤں کے ذریعے بیماری کی شفایا بی کیلئے تکرار کے ساتھ (الخصوص تہجد کے وقت) اللہ سے عرض کی جائے۔ اللہ کیلئے لاعلاج بیماریوں اور نکالیف کو زائل کرنا کچھ مشکل نہیں۔ ایسے واقعات قرآن میں کثرت سے موجود ہیں۔

iii۔ فرائض واجبات کی پاسداری کرنے، اللہ کی یاد اختیار کرنے، اور بالخصوص صدقہ و خیرات کرنے، لوگوں کو معاف کرنے، درگزر کی راہ اختیار کرنے..... سے، انشاء اللہ بچت کی راہ نکل آئے گی۔

یاد رکھیں: زندگی میں جب جان لیوا بڑی مشکل آئے گی تو سمجھ لگ جائے گی۔ اگر زندگی اچھی نہیں تو اس جان لیوا تکلیف پر آنے والا خوف ہی جان نکالنے کیلئے کافی ہے۔ اس وقت پہنچے والے خوف سے پہنچنے کی تین شرائط ہیں:

ا۔ چوبیں گھنٹے کی زندگی کا مکمل طور پر اللہ کے قانون کے تابع ہونا۔

ii۔ ہر نئے آنے والے دن میں جانے کیلئے تیار ہونا۔ ہر دن کے عوض اگر اخروی تیاری مکمل ہے، کوئی چیز ادھوری (Pending) نہیں تو پھر ہی جانے کیلئے تیار ہونا ممکن ہو پائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر یہ شرط پورا ہونا ممکن نہیں۔

iii۔ قرآن فہمی کا حق ادا کرنا۔

اگر یہ تین شرائط پوری ہیں تو آپ کو مبارک ہو، انشاء اللہ آپ موت کے خوف سے بھی نجاح جائیں گے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ ابھی وقت ہے جلد از جلد اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ان تین شرائط کو پورا کر کے اپنا بھلا کر لیں ورنہ حسرت و افسوس اور خسارے سے نجات نہ پائیں گے۔ اللہ ہمیں اسکی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

مصیبت پر کرنے والے کام

جب بھی بیماری و مصیبت آجائے تو عافیت کیلئے مصیبت زده اور ان کے ساتھیوں کو درج ذیل کام کرنے ہوں گے:

المصیبت زده کی ذمہ داری : (۱)۔ دوا کا اہتمام، (۲)۔ بھر پور دعا کرنا اور دوسروں سے دعا کروانا، (۳)۔ صبرا ختیار کرنا، (۴)۔ اللہ کے ساتھ وابستگی پیدا کرنا، اللہ پر توکل کرنا، امور کو اللہ کے سپرد کرنا۔ (۵)۔ صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا۔

پہلے دو کام تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن دوسرے کام: صبر، توکل و تفویض اور لوگوں کو معاف کرنا.... نہیں کر پاتے۔ اسلئے انکی بہت زیادہ فکر کرنی ہے۔ جب انسان پر بڑی مشکل آ جاتی ہے، اسے زندگی کی بہاریں چھوٹی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، تو وہ بے صبرا، دلبر داشتہ اور مایوس ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ کے ساتھ حقیقی تعلق موجود ہو۔

جہاں تک قرآن حکیم سے شفا کا معاملہ ہے تو اصلاً تو یہ روحانی امراض / قلبی روگ کی شفایا بی یا بی کا ذریعہ ہے، لیکن سمجھ بوجھ کے ساتھ اسکی تلاوت (با شخصی آفات و بلیات سے نجات اور دعاؤں پر منی آیات) جسمانی مصائب سے شفایا بی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ لہذا قرآن کے ساتھ وابستگی پیدا کی

جائے، بیماری و مصائب میں غلط طور طریقوں کو اختیار کرنے کی بجائے مسنون دعاؤں کے (ترجمہ و فہم کے) ذریعے اللہ کے ساتھ وابستگی پیدا کریں انشاء اللہ دنیا و آخرت میں عافیت نصیب ہوگی۔ دعاؤں کیلئے درج ذیل کتابوں سے استفادہ کریں: ”**حصن المسلم**“، ”**قرآن شفا**“، اسلامک بک کمپنی“، ”اذکار مصائب اور مصیبتوں سے کیسے نمیں، ڈاکٹر فضل الہی صاحب، درالنور پبلیشر“۔ مزید یہ کہ دوا کے ساتھ ساتھ، بیماری سے نجات کی نیت سے آب زم زم اور شہد کو بھی استعمال کیا جائے۔

مشکل میں انسان کی حالت: خدا نخواستہ جب سخت مشکل، جان لیوا بیماری آجائے تو انسان بے صبرا اور سخت مایوس ہو جاتا ہے۔ اس وقت ایمان متزلزل ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں۔

﴿وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ﴾ (احزان: 33: آیت: 10)

”اور (جب شدید مصیبت آئی) تو اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔“

ان حالات میں بہت چونے ہو کر ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مشکل حالات میں مایوسی سے بچتے ہوئے صبر کا دامن تھام کر اللہ سے وابستہ ہو جایا جائے۔ انشاء اللہ جو کوئی اہل ایمان مخلص اور متقی ہوگا اللہ تعالیٰ اسکی خود حفاظت فرمائیں گے۔

صریر کیسے نصیب ہو؟ ان انتہائی مشکل حالات میں صبر پانے کیلئے یہ ضروری ہے کہ اے دنیا سے ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے۔ غم سے نجات پانے کیلئے یہ ضروری ہے کہ جانے کیلئے تیار ہو جایا جائے۔

ii۔ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنے امور کو اسکی سپرد کرتے ہوئے اس پر توکل اختیار کر لیا جائے۔
 iii۔ اللہ کے ناظر ہونے کے تصور کو بچتہ کیا جائے کہ وہ میری حالت سے بخوبی واقف ہے۔ اگر اس نے بچانا ہوا تو مجھے کوئی مار نہیں سکتا اور اگر اس نے تکلیف لکھ دی ہے تو کوئی شفا نہیں دے سکتا۔.... اللہ کے سامنے گرجائیں انشاء اللہ صبر و سکون نصیب ہو جائے گا۔

﴿وَإِنْ يَمْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (انعام: 5، آیت: 17)

”اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو اس کے سوا اسے کوئی اور دور کرنے والا نہیں اور اگر تجھے کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدر ترکھنے والا ہے۔“

- iv. اپنا موازنہ اپنے سے زیادہ مشکلات والوں سے کیا جائے۔

۷۔ انتہائی قابل غور: اس ضمن میں حوصلے کیلئے انبیاء علیہم السلام ہمارے لئے سب سے بڑا نمونہ ہیں کہ مخلوقات میں سے سب سے بلند مرتبہ و مقام کے باوجود بھی اُن پر کتنی تکلایف آئیں، کیسے کیسے مصائب سے انہیں واسطہ پڑا؟..... نبی کریم ﷺ جو تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں اُن پر کتنے مصائب ٹوٹے: مالی تنگی، فاقہ، بیماری، شدید بخار.... طائف کا مشکل ترین دن، غزوات میں لگنے والے زخم، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں قریباً تین سال محصور رہنا، درختوں کے پتے کھا کر گزارہ..... صحابہ کرامؓ میں بھی سیدنا بلاں و مقداد، حضرت صہیب، سیدنا عمار انگی والدہ اور اگنے والد حضرت یاسر..... رضی اللہ عنہم پر شدید ظلم ڈھانے گئے لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ لیکن افسوس کہ ہم تھوڑی سی تکلیف کی بنابر اللہ پر شک اور شکوئے شکایات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔! اللہ ہمیں بھی ایمان اور استقامت نصیب فرمائے۔ (آمین)۔

دost احباب کی ذمہ داری: مصیبت زدہ کے لواحقین اور دوست احباب کو چاہئے کہ:

(۱)۔ تیمار داری کیلئے جائیں، (۲)۔ حوصلہ ہمت بندھائیں، مرض پر صبر کی صورت میں اجر عظیم کی خوشخبری سنائیں، مریض کے پاس یہ کلمات کہیں: (لا بأس طھور ان شاء الله)۔ (پریشان نہ ہوں ایسی کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں کا کفارہ بن جائے گا)۔ مریض کے پاس فرشتے موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ لہذا اچھی دعا ائمیں ہی دینی چاہئیں دلب رد اشته باتوں سے گریز کرنا چاہئے۔ (۳)۔ مزید یہ کہ اللہ پر توکل کی تلقین کریں، (۴)۔ ہر ممکن

تعاون و مدد کریں، اگر کسی اچھے معان لج کو جانتے ہوں تو ضرور رہنمائی کریں۔
ایسا کرنے سے انشاء اللہ شفایا بی کی راہ بھی نکلے گی اور آپ پر خیر خواہی کی بدولت رب کی بڑی رحمت ہوگی۔
مشکلات کا عظیم بدله: چند روزہ عارضی ایام میں مشکلات پر صبر کرنے والوں کو پور دگار دنیا میں
گناہوں کی معافی اور عظیم اخروی بدله دیں گے:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

- ☆ ”مسلمان کوئی بھی دکھ، تکلیف، رنج و غم آئے یا صدمہ پہنچے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر
چبے، تو ہر دکھ کے بد لے، اللہ اسکے گناہ مٹاہ دیتا ہے۔“ (صحیح بخاری، المرتضی، رقم: 5641)
- ☆ ”مومن مرد اور عورت کو جان، مال اور اولاد میں مسلسل آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ
تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ (مصائب پر صبر کی بدولت) اس پر کوئی گناہ
باتی نہیں رہتا۔“ (ترمذی، کتاب الزهد، رقم: 2398)
- ☆ حدیث قدسی ہے: ”اے ابن آدم! اگر تو مصیبت کی ابتداء کے وقت صبر کرے گا اور ثواب کی
نیت رکھے گا، تو میں تیرے لئے جنت کے سوا کسی اور ثواب پر راضی نہیں۔“
(صحیح ابن ماجہ: 1298)
- ☆ ”مہاجر، فقرا روز قیامت مال داروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں
گے۔“ (مسلم، الزهد، رقم: 7463)
- ☆ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں بندے کو اسکی دو پیاری چیزوں یعنی آنکھوں سے محروم کر کے
آزماؤں، پھر وہ اس پر صبر کرے تو میں اسکے بد لے میں اسے جنت دوں گا۔“
(بخاری، المرتضی رقم: 5653)
- بلکہ اہل ایمان کی جانیں اور مال تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بد لے میں خرید لیا ہے:
(دیکھئے سورہ توبہ آیت ۱۱۱)۔
- لہذا مشکلات پر ہر ممکن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور نہ ہی مایوس ہونا ہے۔

اطمینان و سکون کے ذرائع

پریشانیوں سے نجات سے آگاہی تو ہو گئی، اب آخر میں ان نکات کی لست بھی ذہن نشین کر لیں جو حقیقی اطمینان و سکون کا سبب ہیں:

- 1۔ اللہ کی یاد، 2۔ خواہشات پر قابو، 3۔ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا، 4۔ خدمتِ خلق،
- 5۔ زندگی کو سمیٹنا، 6۔ ویکسی نیشن، 7۔ تنهائی اور پاکیزہ جگہیں، 8۔ سادگی اپنانا، عام لوگوں کی سطح پر آنا، 9۔ ذمہ داری کو احسن نہ حانا، 10۔ موت کی یاد

ان میں سے ہر چیز دنیا و آخرت کی تسلیکین کا باعث ہے، جیسے جیسے ان میں اضافہ کرتے جائیں گے، زندگی میں شامل کرتے جائیں گے، سکون و اطمینان بڑھتا جائے گا۔

اُنکی وضاحت کیلئے دیکھئے ہماری تحریر: (مجموعہ تحریریں: باب: ۷۱)

آخری سوال

کیا آپ دنیا و آخرت کی پریشانیوں اور دھوکوں سے واقعی نجات چاہتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر آپ کو اسکا یقینی حل بتلا دیا گیا ہے، جسے عموماً ہم عمل میں لانے کیلئے سنجیدہ نہیں ہو پاتے۔ اسے عمل میں لائیں اور دنیا و آخرت میں قابل رشک بن جائیں۔!

اللہ عزوجل کا کروڑ ہاشم کر ہے جس نے اس اہم تحریر کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں اس عظیم سعادت کو پانے، اس عظیم روشنی کو دوسروں تک پہنچا کر اپنا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں اپنا دامن ساتھ نصیب فرمائیں و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ (آمین)

اس تحریر میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو، اُسے اللہ اپنے کمال فضل سے معاف فرمائے اور جن بھائیوں نے تعاون فرمایا اُن کے علم و عمل اور درجات میں اضافہ فرمائے۔ اس کاوش کا بہترین اجر میرے پیارے والدین بالخصوص پیاری والدہ محترمہ مرحومہ کو عطا فرمائے اور انکی بخشش اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ (آمین)

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَنَا لِهَذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْ لَا أَنْ هَدَنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾

((وَمَا تَوَفَّى إِلَّا بِاللّٰهِ))



جلدی کریں!

ہماری زندگی اور موت کے مابین ایک غیر یقینی دیوار حائل ہے۔ ہر آن اندریشہ ہے کہ یہ دیوار ٹوٹ جائے اور آخرت کے حقائق ایک بے پناہ سیلا ب کی طرح ہمارے اوپر پھٹ پڑیں۔ اُس وقت کوئی زور، کوئی ہوشیاری کام نہ آئے گی۔ انسان بالکل بے شہارہ ہو کر اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہو گا۔ قرآنی احکامات سے دور، خود ساختہ سوچ، فرقہ واریت اور مسلک پرستی کی بنابر غلط عقائد و افعال پر گامزن، خواہشات کے رسیا، دنیا کی دلفریبیوں میں گم، آخرت سے غافل لوگ دائیٰ جہنم میں ڈال دئے جائیں گے۔ صرف بچے گاہ جس نے تعلیمات وحی کو من و عن سمجھا اور من و عن تسلیم کر لیا۔ اپنی سوچ، اپنے فرقے، گروہ، اپنے لیدر، اکابرین، امام، پیر اور بزرگ حضرات کو حقیقی معنوں میں اللہ اور اسکے پیارے رسول ﷺ کی تعلیمات کے تابع کر لیا۔ جس نے صبر کے ساتھ اپنی خواہشات کو قابو کرتے ہوئے، خالق کے سامنے پیش ہونے سے قبل دنیا کی زندگی میں اپنا حساب کر لیا ہو گا۔ اسلئے مکار ابلیس کے فریب سے بچیں اور جلد از جلد حقیقت تسلیم کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بچالیں۔ جلدی کریں مہلت کا کچھ بھروسہ نہیں:

”اور (آے لوگو !) پیروی کرو اُس بہترین شے (قرآن حکیم) کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اُتاری گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پراچانک عذاب آجائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ (ایمانہ ہو کہ) پھر تم کہنے لگو کہ ہائے افسوس ! اُس غفلت پر جو میں نے اللہ کے حق میں کوتا ہی کی بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا۔ یا کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیز گاروں میں شامل ہو جاتا۔ یا (قیامت کے دن) عذاب کو دیکھ کر کہنے لگا۔ کاش ! کسی طرح مجھے (دنیا میں) دوبارہ بتحج دیا جائے تو میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو سکوں۔ (اللہ فرمائے گا): ہاں ہاں ! بے شک تیرے پاس میری آیات (قرآن) پہنچ چکی تھیں جنھیں تو نے جھٹلا یا اور غرور و تکبر کیا اور تو انکار والوں میں ہی رہا۔“

(سورۃ الزمر، آیت: 59 - 55)

ہماری دعوت!

وہ مسلمان جنگیں اللہ کے پیارے رسول ﷺ نے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، موجودہ دور میں انکی حالت تشویشناک ہے۔ مسلمان جدا جدا اگر وہوں میں منقسم ہو چکے ہیں، علیحدہ علیحدہ مساجد اور مکاتب بن چکے ہیں، جو جس گھرانے میں پیدا ہوا یا جس ماحول میں پرورش ہوئی وہی اسکا دین و مذہب بن گیا۔ لوگ اپنے پسندیدہ مسلک اور فرقے کو صحیح جبکہ باقیوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ باہمی نفرت میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ان حالات میں ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ فرقوں سے بالاتر ہو کر سچائی کی بنیاد پر غلط اور صحیح کو واضح کیا جائے اس عزم کے ساتھ کہ:

☆ اللہ کے دین کو مسلک اور فرقوں پر ترجیح دی جائے۔

☆ جس مکتب فکر کی جتنی بات درست ہے اسے تسلیم کیا جائے اور غلط سے بچا جائے۔ صحیح بات جہاں سے بھی ملے اسے بلا چون و چراں تسلیم کیا جائے چاہے وہ ہماری اپنی فکر کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

☆ باہمی غلط فہمیوں کو دور کر کے مسلمانوں کے مابین اتحاد و تجہیق پیدا کی جائے۔

☆ شخصیات کا احترام کیا جائے لیکن اللہ اور اسکے رسول ﷺ کو کائنات کے تمام لوگوں پر ترجیح دی جائے۔
رب کریم نے ہماری رہنمائی کے لیے فرمایا:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران: 103)

ترجمہ: ”تم سب مل کر اللہ کی رسی (قرآن مجید) کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو“

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَمْ وَكَانُوا أَشِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ

ثُمَّ يُبَيِّنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (سورۃ الانعام، آیت: 159)

ترجمہ: ”بیشک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور گروہوں میں بٹ گئے آپ ﷺ کا

ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر وہ انکو بتلانے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔“

﴿آئیں دنیا و آخرت کی کامیابی کیلئے پیغام حق کی کاوش کو دوسروں تک پہنچانے میں تعاون کریں﴾

(ہمارا عزم)

سچائی کی پیروی

(Email: khidmat777@gmail.com)

ہماری اہم تھاریر

| کتاب نمبر | ٹائٹل | کتاب نمبر | ٹائٹل |
|-----------|--|-----------|---|
| 1 | ہدایت: (ہدایت سے کیا مراد ہے اور ہدایت کسے نصیب ہوگی؟) | 2 | قرآن مجید کی حاکیت: (احناف اور مالکیہ کے اصول روایت کی روشنی میں عالمگیر غلط فہمی کا ازالہ) |
| 3 | امت مسلمہ کا اخلاقی زوال: (زوال کی بنیادی وجوہات اور نجات کا یقینی حل) | 4 | قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ |
| 5 | راہ فلاح کی پہلی بڑی گھانی: (دنچارستی اور نفس و شیطان کے جوابات پر حقائق) | 6 | رسالت کا حقیقی تصور: (راہ فلاح کی دوسری گھانی: رسالت کے مقابلہ میں آباضتی پر آگاہی) |
| 7 | توحید کا جامع تصور: (راہ فلاح کی تیسرا گھانی: شرک کے مقابلے میں توحید پر جامع رہنمائی) | 8 | عبدت کا معنی مفہوم: (تفہیم عبادت پر ایک اہم کتابچہ) |
| 9 | ظم عظیم پر جامع رہنمائی: (راہ فلاح کی تیسرا گھانی: غلط شرک پر جامع رہنمائی) | 10 | کائنات سے خالق کا نتائج تک: (وجود خالق کے حیرت انگیز دلائل) |
| 11 | پردہ: (پردہ کے چمن میں مرد و عورت کیلئے قرآن و سنت کے احکامات) | 12 | اسلام کا قانون طلاق: (یک مجلسی تین طلاق کے ایک یا تین واقع ہونے پر اہم رہنمائی) |
| 13 | طاقدور ایسی دھوکے: (مکار ایسی کی مزین کرده انتہائی طاقتور چالوں سے آگاہی) | 14 | مجموعہ تھاریر: (مختلف اہم موضوعات پر زندگی تبدیل کرنے والی مختصر تھاریر کا مجموعہ) |
| 15 | امت اسلامیہ کا اتحاد: (اتحاد و تجہیز اور فرقہ واریت کی خوست پر انتہائی اہم تحریر) | | |

کتابچے (Booklets)

عام لوگوں کیلئے اہم موضوعات پر خیم کتابوں کی بجائے کتابوں کی شکل میں مختصر تھاریر

| | | | |
|----|---------------------------------------|----|---|
| 1 | ایمان ایک زندہ حقیقت (انمول تھہ) | 2 | زبان سے کلمہ کا اقرار اور نجات کی صفات؟ |
| 3 | مقصدِ حیات | 4 | انسانیت کی عظیم ترین آفت (خواہش نفس) |
| 5 | بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کی وجوہات؟ | 6 | اوامر و نواعی کی لست |
| 7 | تلائی رب (اللہ کے قرب کا یقینی راستہ) | 8 | تلائی خالق (وجود خالق کے یقینی دلائل) |
| 9 | توحید (لا الہ الا اللہ) | 10 | رسالت (محمد رسول اللہ) |
| 11 | حقوق العباد | 12 | پریشانیوں سے نجات کا یقینی حل |

پمپلٹ اور بر و شرز

مختلف اہم موضوعات پر زندگی تبدیل کرنے والی مختصر تھاریر: پمپلٹ اور بر و شرز وغیرہ۔

استفادہ کیلئے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں۔

﴿آئیں دنیا و آخرت کی کامیابی کیلئے پیغام حق کی کاوش کو دوسروں تک پہنچانے میں تعاون کریں﴾



مصائب و آلام، تنگی و تکالیف اور پریشانیاں اس زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ گاہے بگاہے آنی ہی آنی ہیں۔ اسباب کی اس زندگی میں ان سے بچنے کی کوشش تو کی جاسکتی ہے، لیکن ان سے کلی چھٹکارہ پانا ممکن نہیں۔ مصائب سے نمٹنے کے دو بنیادی ذرائع ہیں: (۱)۔ اسباب کے تحت کوشش (عمومی حل) اور (۲)۔ مسبب الاصباب کا سہارہ (یعنی خصوصی حل)۔ عام طور پر لوگ پہلے حل سے تو کسی حد تک آگاہ ہوتے ہی ہیں، جبکہ دوسرے حل کو نہیں جانتے۔ اسباب کے تحت موثر کاوش (یعنی عمومی حل) سے کافی حد تک بچاؤ تو ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ پوری طرح سے حل نہیں ہو پاتا۔ ایک مصیبت سے جان چھوٹی ہے، تو دس نئی مصیبتوں آواقع ہوتی ہیں۔ زندگی کے اس کڑوے پہلو سے نجات کا اصل ذریعہ..... عمومی حل کے تحت کاوش کے ساتھ ساتھ خصوصی حل کو اپنانا ہی ہے۔ جس کے بغیر نہ دنیا میں امان ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ انسان کی اصل خوش نصیبی اس (خصوصی حل کی) حقیقت سے آگاہی اور اسے اپنانے میں ہے اور اصل قابل ترس وہ لوگ ہیں جو اس حقیقت سے نا بلد ہیں۔ یہ تحریر اس پھنور سے نکلنے کی ایک منفرد کاوش ہے، جس میں پریشانیوں سے نجات کے حقیقی حل کے تمام پہلوؤں کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ جوان شاء اللہ چین و راحت اور امن و عافیت کا یقینی ذریعہ ثابت ہوں گے۔ خود بچپن اور دوسروں کو بچانے کا ذریعہ نہیں۔

ہمارا حزمر
(سچائی کی پیروی)



www.khidmat-islam.com



KHIDMAT777@GMAIL.COM